

تحفہ عصمت

تالیف

الشیخ بکر بن عبداللہ ابوزید

ترجمہ

مشاق احمد کریمی

مؤسس و صدر الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی کٹیہار، بہار

☆☆☆

طابع و ناشر

الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی کٹیہار، بہار، انڈیا

پوسٹ بکس نمبر ۲۲، فون: ۲۳۴۹۳۲، فیکس: ۲۲۵۸۹۶/۰۶۴۵۲

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں
سلسلہ مطبوعات الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی کٹیہار (۸)

نام کتاب	: تحفظ عصمت
مولف	: شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید
مترجم	: مشتاق احمد کرمی
سن طباعت	: ۲۰۰۴ء
صفحات	: ۱۵۰
تعداد	: ۱۱۰۰
تقسیم کار	: معہد حفصہ بنت عمر حاجی پور، کٹیہار، بہار ۸۵۴۱۰۵
پروڈکشن	: الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی کٹیہار، بہار، فون: ۲۲۵۸۹۶
کمپوزنگ	: مکتب دعوت و توعیۃ الجالیات ربوہ، ریاض، سعودی عرب
مطبع	: سرورق ڈیزائن:
قیمت	: ۷۰ روپے
ملنے کے پتے	: ۱۔ معہد حفصہ بنت عمر حاجی پور، کٹیہار فون ۲۳۴۹۳۲
	۲۔ اپنا کتب خانہ، ایم جی روڈ ضلع کٹیہار، بہار پن کوڈ ۸۵۴۱۰۵
	۳۔ جنرل کتاب گھر، ایم جی روڈ ضلع کٹیہار، بہار (انڈیا)
	۴۔ مکتبہ ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ۴۱۱۶ اردو بازار، جامع مسجد دہلی ۶
	۵۔ مکتبہ جامعہ ابن تیمیہ، مسجد کالے خاں، دریا گنج، نئی دہلی۔

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ:

اسلام دینِ فطرت ہے اور اس کے تمام احکام و قوانین بشری
فطرت و تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ اس بنا پر اس کا کوئی بھی حکم۔ خواہ
چھوٹا ہو یا بڑا۔ انسانی فطرت و جبلت سے متصادم نہیں ہے۔ اسلام
عالمگیر و آفاقی نظام کا حامل دین ہے، اس لئے اس کا کوئی بھی قانون
انسان و انسانیت کی تعمیر و ترقی کے مخالف نہیں ہے۔ اور اسلام قیامت
تک کے لئے غالب دین ہے، اس لئے اس کے تمام اصول و ضوابط ہر
دور، ہر جگہ اور کائنات کے ہر خطہ میں حیاتِ انسانی کی گاڑی کے رواں
دواں کے لئے مناسب ہیں۔ چنانچہ احکامِ اسلام کی پابندی ہی میں نہ
صرف اہلِ اسلام کی بلکہ پورے انسانی معاشرہ و سوسائٹی کی فلاح و بہبود
اور سعادت و کامرانی کی صد فیصد ضمانت ہے۔

اسلام کے عظیم و بلند ترین بدیہی احکام میں ایک عفت و عصمت کے
تحفظ کا حکم ہے، اور عفت و عصمت کے تحفظ کا سارا سہرا عورت کے حجاب کو

جاتا ہے، اور حجاب عورت کا تاج ہے اور گھر اس کا تخت طاؤس۔

اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام و قانون سے بغاوت نے انسان کو ادوار ماضیہ میں انتہائی ذلت و پستی کے عمیق غار میں گرایا اور دور حاضر میں بھی اس کا مختلف شکلوں میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ خاندانی استحکام و پکڑ کی تباہی، معاشرہ کی جنسی انارکی سے آلودگی، شرح طلاق میں غیر معمولی اضافہ، جائز بچوں کی شرح میں ریکارڈ کمی اور ناجائز و حرامی بچوں کی ریکارڈ توڑ کثرت، معاشرہ میں لاعلاج جدید امراض مثلاً سرطان و ایڈز کا وبائی انتشار و پھیلاؤ، اس کے زندہ ثبوت ہیں۔

آج یورپ و مغرب جس فحاشی و عریانیت، تبرج و بے حیائی اور اخلاقی بحران و انارکی کا شکار ہیں، اس کی حقیقی وجہ یہی قانون الہی سے بغاوت ہے۔ اور اس نے اپنی تہذیب کو مشرق پر تھوپنے اور مسلمان عورت کو اس کا شکار بنانے کے لئے اپنے تمام تر جدید وسائل و ذرائع: ریڈیو، ٹیلیویشن، رسائل و جرائد، آڈیو و ویڈیو کیسٹ و فلم، کمپیوٹر و انٹرنیٹ کو بروئے کار لایا ہوا ہے، تاکہ ایک مومن عورت اپنے حجاب کے ساتھ ساتھ عبائے عفت و عصمت بھی اتار پھینکے، اور مردوں کی جنسی ہوس کی شکار بن جائے۔

زیر نظر کتاب ﴿ تحفظ عصمت ﴾ مسلمان عورت کو اس کی عفت

وعصمت کے تحفظ کی یاد دہانی اور یورپ و مغرب کی اندھی تقلید و نقالی کے حتمی خبیث نتائج سے تحذیر کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصنف کے خلوص اور امت مسلمہ کی عورتوں کے درد کے سوز کا ثمرہ یہ دیا کہ اس کتاب کو ہر حلقہ میں غیر معمولی پزیرائی عطا فرمائی، اور صرف دو مہینے کے انتہائی قلیل عرصہ میں پانچ لاکھ (۵۰۰۰۰۰) سے زائد نسخے طبع کرانے پڑے۔ اس مقبول عام کتاب کو اردو کا جامہ پہنانے کی سعادت حاصل کرنے پر ہم بارگاہ الہی میں شکر و سپاس کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرور ہیں۔ اپنی بساط کی حد تک ترجمہ سلیس و شستہ اور اصل عربی الفاظ کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے قصور علم اور علمی بے مائیگی کے اعتراف کے باوجود محض اس جذبہ کے تحت اس جرأتِ رندانہ کا اقدام کیا گیا ہے کہ شاید اس حقیر کاوش سے کسی بے حجاب ماں، یا نیم برہنہ بہن، یا عریاں مسلمان عورت کو اس کی متاعِ گم گشتہ کی قدر معلوم ہو جائے اور وہ اپنی حیا کو دوبارہ گلے لگا کر اپنے زمرہ کے گلوبند کی پابندی کر لے۔ کیا آج نبی امی، صادق و صدوق محمد ﷺ کا یہ زریں فرمان حرف بحرف سچ ثابت نہیں ہو رہا ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾ (بخاری و مسلم) ”جب تم اپنی حیا ہی کھو دو، تو تم کسی بھی حد تک

جاسکتے ہو، اور آج کا مغربی ویورپی معاشرہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دست بستہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس حقیر کاوش کو شرفِ
قبولیت سے نوازے، اس سے اردو داں طبقہ کو وہی فائدہ پہنچائے جو عربی
داں حلقہ کو پہنچ چکا ہے۔ اور غیرت مند مسلمان مردوں کو اپنی عورتوں اور
بیٹیوں سے حجاب کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود مسلمان ماؤں،
بہنوں اور بیٹیوں میں حجاب کا جذبہ بیدار کر دے، تاکہ ان کی عفت
وعصمت محفوظ رہے، آمینَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ،،،،،،،۔

مخلص طالبِ دعا

مشتاق احمد کریمی

صدر الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی

کٹیہار - بہار - انڈیا

جمعہ ۱۰ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ مولف چوتھا ایڈیشن

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ
الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ:

بطور تحدیثِ نعمت اور ہر مسلمان کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ کتاب
﴿حِرَاسَةُ الْفَضِیْلَةِ﴾ (تحفظِ عصمت) کی علماء، طلبہ اور اہل غیرت
مسلمانوں کی جانب سے بڑی پزیرائی ہوئی، یہاں تک کہ دعاۃ خیر کے اندر
اس کی طباعت و نشر و اشاعت کے لئے ایک دوڑ کی سماں بندھ گئی، اس کا
اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف دو مہینے کے قلیل عرصہ میں اس کے
پانچ لاکھ نسخے طبع کرانے پڑے اور ہنوز طلب جاری ہے۔ اس لئے
مناسب معلوم ہوا کہ اس جدید ایڈیشن میں نو عدد فہارس کا اضافہ کر دیا
جائے اور طباعت کی غلطیوں کی اصلاح کر دی جائے جو کہ نہ ہونے کے
برابر تھیں، اور حافظ ابن قیم و حافظ ابن حجر رحمہما اللہ کے دو اہم اقتباسات
(ص ۱۰۰ اور ۳۹) نیز بعض دوسرے ناگزیر اضافے کئے جائیں۔

یہاں اس بات کا اشارہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا کہ چھ مقام پر شیخ
احمد شاہ رحمہ اللہ کے اقتباسات نقل کئے گئے ہیں، تاکہ ”عورت کی

آزادی‘ کے اوٹ میں منحرف مطالبات کا مقابلہ کرنے میں ایک عالم کے قلمی جہاد کی ایک تصویر سامنے آجائے، اس خوف سے کہ کہیں ان مطالبات پر خاموشی اختیار کر لینے سے اس کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے ﴿الذین يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا﴾ ”جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں“، جیسا کہ اس کی تفصیل (ص ۱۱۵ اور ۱۸۲) میں آرہی ہے۔

نیز یہ اشارہ بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ ”عورت کی آزادی“ کے نام پر گزشتہ سو سال سے زائد عرصہ سے فتنہ پردازوں کے قلم سے جو غلط و منحرف مطالبات ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھیلانے جاتے رہے ہیں، وہ ان فتنہ پرور مولفین کی حجاب کے خلاف ایک سازش کے سوا کچھ نہیں ہیں، گویا وہ دین کے نام پر ایک وہمی و خیالی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے خبیث اصول کا زینہ: ”عورت کی آزادی“ کا نعرہ ہے، جو بنیادی طور پر دین کو تمام شعبہ ہائے حیات سے خارج کر دینے پر مبنی ہے۔ اس لئے ”مسئلہ حجاب“ پر علمائے کرام کی طرف سے ان کا مقابلہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ یہ ”راج و مرجوح“ کا باب ہے، جو ان کا آزادی پسند علماء کے ساتھ رویہ رہا ہے، کیونکہ یہ مولفین اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اتفاق یا

اختلاف کیا جائے، بلکہ یہ علماء مصلحین کا روئے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے دفاع کا باب ہے۔ اس لئے فرضیت حجاب کے مسئلہ پر ان کے ساتھ گفتگو دین کے بنیادی اصول میں سے ہے، تاکہ ان مغرب پرست لوگوں کا مقابلہ کیا جاسکے، جو فواحش و منکرات کا برملا اعلان کرتے ہیں، اور تاکہ ان کی شاعت، طعن و تشنیع اور زندگی سے دین کو خارج کر دینے کے ان کے مقصد کا دفاع و انکار ہو جائے، اس لئے یہ وضاحت ضروری تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور بندیوں کا ولی و دوست ہے۔

مولف

بکر بن عبداللہ ابو زید

۲۲ / ۲ / ۱۴۲۱ھ

طائف - سعودی عرب

☆ ☆ ☆

☆ ☆

☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ طبع اول

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم باحسان إلى يوم
الدين، أما بعد:

یہ ایک رسالہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کی خاطر منظر عام پر لایا جا رہا ہے، اس جذبہ کے ساتھ تا کہ مومن عورتوں کو فضیلت و کرامت پر ثابت قدم رکھا جائے اور مغرب پرست لوگوں کے برائیوں کے نعروں کی قلعی کھول دی جائے، کیونکہ دین کے پابند مسلمانوں کی زندگی - جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت، طہارت، عفت، شرم و حیا اور غیرت و حمیت پر مبنی ہے - دور حاضر میں ہر چہار جانب سے خطرات سے گھری ہوئی ہے۔ عبادات و اعتقادات میں شبہات کی بیماریاں ڈالنا ہو، یا اخلاق و سلوک اور معاشرہ میں شہوات کی غلاظت لانا اور اسے مسلمانوں کی زندگی کا جزء لاینفک بنا دینا، یا اسلام کے خلاف جنگ کی بدترین پلاننگ کرنا اور امت اسلامیہ کے خلاف گھناؤنی سازش کرنا، ان سب کی سرپرستی جدید عالمی نظام، نظریہ ”وحدت ادیان“ کے قالب میں کر رہا ہے، جو اختلاط و اتحاد حق و باطل، معروف و منکر، نیک و بد، سنت و بدعت، سنی و بدعتی، قرآن و منسوخ کتب تورات و انجیل، مسجد و کلیسا، مسلم و کافر کی دعوت ہے۔ اور یہ نظریہ ”وحدت ادیان“ مومن کے دلوں سے دین کو تحلیل کرنے اور جماعت مسلمین کو بکنے والے جانوروں میں ضم کر دینے کی بدترین چال ہے، نیز

اس کو ایسے گروہ میں تبدیل کر دینے کی سازش ہے کہ جس کا اعتقاد متزلزل ہو، جو لذت و شہوت پرستی میں غرق ہو اور جو حس و شعور میں کند و بلید ہو، نہ معروف کا حکم کرتا ہو اور نہ منکر سے روکتا ہو، یہاں تک کہ اس کا بعض فرد جس پر شقاوت کا غلبہ ہو چکا ہو، وہ خائب و خاسر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے اور پھر بتدریج اپنے دین سے منحرف و مرتد ہو جائے۔

اور یہ سب کچھ ”ولاء و براء“ پر حملہ کرنے، ”حب فی اللہ“ اور ”بغض فی اللہ“ کو پارہ پارہ کرنے، قلم کو لگام دینے، کلمہ حق کہنے سے زبان پر قدغن لگانے، اور جس کے پاس کچھ خیر کی رقم باقی ہے، اس پر مختلف الزام تراشیاں کرنے اور اسے ”دہشت گرد“، ”انتہا پسند“، ”غلو و تشدد کار“ اور ”رجعت پسند“ جیسے القاب سے مطعون کرنے۔ جو کافروں نے مسلمانوں کو، مغرب والوں نے مومن و ثابت قدم لوگوں کو، غالبوں نے مغلوبوں کو دیئے ہیں۔ کے ذریعہ چل رہا ہے۔

اور ان خطرات میں سب سے منحوس اور امت کو بے حیائی و شہوت پرستی میں غرق کرنے اور اس کو اخلاقی گراؤٹ میں دھکیلنے میں سب سے کارگر، دعاۃ فتنہ کی وہ سرگرمیاں ہیں جنہوں نے اپنی اور مومنین کی عورتوں میں فضائل اسلامیہ کی حمایت سے اعراض کر کے فتنوں کے مدارج طئے کئے اور فحاشی و بے حیائی کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور پاک و صاف عصمت کے قلعہ کی حفاظت سے منہ موڑ کر اسے اس کی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا اور اس پر حملہ آوری میں لالچوں کے دروازے کھول دیئے۔ اور یہ سب کچھ مجرمانہ دعوت اور گمراہ کن نعروں کے سایہ تلے، ”عورت کے

حقوق“، ”آزادی نسواں“ اور ”مساوات مرد و زن“ کے نام پر ہورہا ہے، نیز اس فہرست میں ایسے نعرے بھی ہیں جن کی تفصیل طوالت کا باعث ہے، اور جنہیں کم عقلموں اور بیمار ذہنوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جن کی دعوت کے ساتھ وہ بلاد اسلامیہ اور صالح معاشرہ میں گشت لگا رہے ہیں، تاکہ حجاب کو اتار پھینک کر اس کی جگہ بے حیائی و بے پردگی، عریانیت، اختلاط و آوارگی کی خوب اشاعت کی جائے، یہاں تک کہ بے حیا عورت کی زبان حال یہ پکار اٹھے: ”اے اباحیت پرستو! آؤ اپنی جنسی ہوس پوری کر لو“۔

تاہم انہوں نے بڑی باریک چال اور غیر محسوس خفیہ تدبیر اپنائی اور ”روضۃ الأطفال“ اور وسائل اعلام میں بچوں کے پروگرام، نیز بچوں کے آپسی تعارف اور عید و جشن کے موقع پر دونوں صنفوں کی طرف سے پھولوں کا گلہ ستہ پیش کرنے میں دونوں جنسوں کے درمیان اختلاط کی اینٹ رکھ کر شروعات کی۔ اس طرح حجاب کو پارہ پارہ کیا جا رہا ہے اور اختلاط کی بنیاد ان جیسی شروعات سے رکھی جا رہی ہے، جنہیں بہت سارے لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں۔

اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہ صرف ان سے ان شروعات کے اغراض و مقاصد اوجھل ہیں بلکہ وہ ان کے سرچشموں کی معرفت سے قطعی نابلد ہیں، جیسا کہ حیا باختہ اور رسوا کن جدید فیشنوں میں ہے، اور یہ نئے فیشن ان بدکار عورتوں کے یہاں سے درآمد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عزت و آبرو نیلام کی ہوئی ہے اور جو اپنے نفس کی آبرو کی قیمت پر ان نئے فیشنوں کی نمائش کرتی ہیں اور جو عریانیت

وسفلہ پن کی انتہا ہے۔ ان نئے فیشنوں سے بازار بھرے پڑے ہیں اور عورتیں آپس میں انہیں خریدنے میں مسابقت پر فخر کرتی ہیں، کاش وہ اس کے متعفن سرچشمہ کو جانتے تو اس سے ضرور دور رہتے، جن میں ابھی بھی شرم و حیا کی کچھ رمت باقی ہے۔ اور حرام شروعات میں ایک: بچوں کو عریاں لباس پہنانا بھی داخل ہے، کیونکہ اس سے بچوں کو ان لباسوں اور ان جیسی زیبائش و آرائش سے انسیت و الفت پیدا ہو جاتی ہے، جن میں عریانیت، آبرو باختگی اور بدکاریوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے مختلف ہتھکنڈے اپنائے اور ہر جانب سے عورت کی بے حیائی و بے پردگی کی آواز بلند کی، کبھی دعوت دے کر، کبھی عملی جامہ پہنا کر اور کبھی اسباب فتنہ و فساد کی اشاعت کر کے، یہاں تک کہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دلوں کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

اس لئے اب کلمہ حق کا آواز بلند کرنا نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ جس سے مومن عورتوں سے بادل چھٹ جائے اور مغرب پرستوں کے شرکا۔ جو دین و ملت پر ظلم ڈھارہے ہیں۔ دفاع ہو جائے اور برملا اس بات کی تذکیر و یاد دہانی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لئے بطور عبادت فرض قرار دیا ہے اور وہ ہے حجاب کی فرضیت، شرم و حیا، عفت و عصمت کا تحفظ، محرمانہ پر غیرت۔ اور اس چیز کا خوف دلا دیا جائے جو اللہ و رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ ہے بے حیائی و بے پردگی اور اختلاط کے ہتھیاروں سے عزت و شرافت کی جنگ اور اس کے

خیانت کاروں اور برائیوں کے داعیوں کے چہروں کے دبیز مکھوٹوں میں شگاف زنی، تاکہ ایک عقیف اور پاکدامن عورت کی زبان حال یہ کہہ اٹھے:

”إِلَيْكَ عَنِّي، إِلَيْكَ عَنِّي فَلَسْتُ مِنْكَ، وَلَسْتُ مِنِّي“

”تم مجھ سے دور رہو، تم مجھ سے ہٹ کر رہو، تم سے میں نہیں اور نہ تم مجھ سے ہو۔“

نیز اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ان پروپیگنڈوں سے اپنے محارم کی حفاظت اور اپنی عورتوں کے تحفظ پر ثابت قدم رکھے۔ نیز ان میں سے کسی بھی دعوت کو اچھے محل پر محمول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے معاشرہ کے عام لوگوں میں بے حیائی و بے پردگی اور فواحش و منکرات کے انتشار کا مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں یہ گمراہ کن پروپیگنڈے نفوذ کر چکے ہیں۔

بلکہ صحافت برائیوں کی انتہائی نجلی سطح پر جا چکی ہے، جس میں بعض خبیث لوگوں کے اقوال، بدکاری کے احوال اور مقدمات سے عشق کے اعلان کے ساتھ شائع کئے گئے ہیں، مثلاً فون پر لڑکیوں سے مکالماتی تلذذ، اور بعض ذلیل لوگوں کا یہ قول شائع کیا گیا ہے کہ وہ ”فون پر حسب و نسب والی شریف لڑکیوں سے گفتگو کا شیدائی ہے“ اور اس جیسی نفسانی آوارگی اور اخلاقی بے مہاری کی صدا و گونج اخبارات میں سنائی دے رہی ہے۔

اس لئے ہر شخص کو۔ چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا شوہر۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا ولی و سرپرست بنایا ہے، اس معاملہ میں اس سے خوف کھانا چاہئے کہ وہ اسے حجاب سے بے حجابی کی طرف انحراف اور شرم و حیا سے روگردانی کر کے

اختلاط کی طرف پیش قدمی کرنے کی کھلی چھوٹ دے دے اور دنیوی لالچ و نفسانی خواہشات کو تحفظ ناموس اور آخرت کے دیر پا ولجے اجر و ثواب پر ترجیح دینے سے گریز کرے اور بچے۔

اور مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا خوف کھائے اور اپنا سر تسلیم اس کے آگے اور محمد بن عبد اللہ ﷺ کی قیادت کے سامنے خم کرے اور شتر بے مہار لوگوں کی طرف مطلق التفات نہ کرے جو کہ فواحش و منکرات اور حماقت کے داعی ہیں۔ جو شخص پکا و سچا ایمان و یقین والا ہوگا، وہ بتوفیق الہی پاکدامن ہوگا اور اللہ کی شریعت پر استقامت دکھائے گا۔

اب یہ رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ فضیلت و کرامت کے اصول اور اس کی حفاظت کے راستہ کی رہنمائی کرے گا اور مومن عورتوں کو اس کے التزام کی ترغیب دے گا، عورت کو رذائل کی طرف دعوت دینے والوں کی قلعی کھولے گا اور اس کو اس کے ارتکاب سے ڈرائے گا۔ اور فصل اول ہی سے قطعی طور پر دوسری فصل کی باتوں کا رد معلوم ہوتا چلا جائے گا۔

اور جو کچھ عرض کیا گیا۔ انشاء اللہ۔ وہ ہدایت، نصیحت اور ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہوگا جن کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے، ان کی ہدایت و استقامت کا ارادہ کیا ہے، اور ہر شخص اپنے نفس کا حساب دے گا، اس لئے اپنے اترنے کی گھاٹ اور واپس پلٹنے کے ٹھکانوں کو خوب غور سے دیکھ لے۔ بات پہنچادی گئی۔ وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

یہ زیر ترتیب رسالہ کتب تفسیر و حدیث و فقہ کے علاوہ عورت کے موضوع پر لکھے گئے دو سو مقالات، رسالوں اور کتابوں کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ اسے بعض اقتباسات و عبارات کو ان کے اصل ماخذوں کے حوالہ جات سے جو جھل نہیں بنایا گیا اور صرف اتنے ہی اشارہ پر اکتفا کر لیا گیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومن مرد و عورت کے قلوب کو جس بات کے ذریعہ استنقا مت عطا کرتا ہے وہ چند ہی آیات کے اسرار تنزیل کی چند جھلکیوں کا اظہار کافی ہوتا ہے۔ اور زیر نظر رسالہ میں اس کی معتد بہ جھلک موجود ہے جسے اس کی ورق گردانی سے دیکھی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رسالہ کو قبولیت کے جوڑوں کا لباس پہنائے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مولف

بکر بن عبداللہ ابوزید

۱ / ۴ / ۱۴۲۰ھ

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

☆

پہلی فصل

فضیلت و کرامت کے دس اصول کا بیان

- پہلا اصول: مرد و عورت کے مابین فرق و امتیاز پر ایمان واجب ہے۔
- دوسرا اصول: حجابِ عام
- تیسرا اصول: حجابِ خاص
- چوتھا اصول: خانہ نشینی و ملکہ خانہ
- پانچواں اصول: مرد و عورت کا اختلاط شرعاً حرام ہے۔
- چھٹا اصول: تبرج و سفور شرعاً حرام ہیں۔
- ساتواں اصول: اللہ نے زنا کو حرام قرار دینے کے ساتھ اس کے تمام اسباب و وسائل کو بھی حرام قرار دیا ہے۔
- آٹھواں اصول: نکاح شرافت و کرامت کا تاج ہے۔
- نواں اصول: اولاد کی گمراہ کن شروعات سے حفاظت ضروری ہے۔
- دسواں اصول: اپنی محرم اور مومنین کی عورتوں پر غیرت واجب ہے۔

پہلا اصول

مرد و عورت کے مابین فرق و امتیاز پر ایمان واجب ہے

مرد و عورت کے مابین جسمانی، معنوی اور شرعی فرق و امتیاز عقلی، حسی، شرعی اور قدری طور پر ثابت ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے دو دھڑے ”مرد و عورت“ کو پیدا فرمایا، ارشاد ربانی ہے: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (النجم: ۴۵) ”اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے“۔ اور دونوں صنف اپنے اپنے خصوصی میدان میں کائنات کی تعمیر و ترقی میں شریک کار ہیں، نیز کائنات کی تعمیر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت و بندگی اور دین کے تمام احکام میں بلا فرق و امتیاز دونوں شریک ہیں۔ توحید، عقیدہ، حقائق ایمانی، اللہ کے سامنے جنیں سائی، ثواب و عقاب، عام ترغیب و ترہیب و فضائل، شریعت کے تمام حقوق و واجبات میں بلا فرق و امتیاز دونوں برابر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶) ”میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں“۔ نیز ارشاد الہی ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (النحل: ۹۷) ”جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے“۔ نیز ارشاد باری ہے: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٢﴾ (النساء: ١٢٢)

”جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی کٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا“۔

لیکن جب اللہ کے قضا و قدر میں یہ بات طے ہوگئی کہ مرد خلقت، شکل و شباهت، ہیئت اور وجود میں عورت سے مختلف ہے، کیونکہ مرد میں تخلیقی کمال اور فطری قوت و طاقت ہوتی ہے، جبکہ عورت بناوٹ، جبلت اور فطرت میں مرد سے ناقص و کمزور ہوتی ہے، اور اس نقص کا سبب عورت کا حیض، حمل، نفاس، رضاعت، دودھ پیتے بچہ کی دیکھ بھال، آئندہ نسل کی تربیت جیسے مراحل سے دوچار ہونا ہے۔ اور اسی سبب سے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت مرد کا جزء، اس کی تابع اور اس کی متاع ہے، اور مرد عورت کے امور، تحفظ، اس کے اور ان دونوں کے بچوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ اور تخلیق میں اس اختلاف کے آثار و نتائج میں دونوں صنفوں کے مابین طاقت و قوت کا فرق نہ صرف جسمانی، عقلی و فکری اور جذباتی و ارادی قوت میں ہے، بلکہ عمل، صلاحیت اور ادا میں بھی موجود ہے، جبکہ دونوں جنسوں کے مابین تخلیقی فرق و تفاوت کے عجیب و غریب آثار و نتائج تک علماء طب جدید کی رسائی اس پر متراد ہے۔

اور فرق و تفاوت کی ان دونوں قسموں کے ساتھ احکام شریعت کا ایک بڑا حصہ جڑا ہوا ہے، چنانچہ اللہ حکیم و علیم کی حکمت بالغہ سے مذکورہ دونوں قسموں نے اختلاف، تفاوت، مرد و عورت کے مابین بعض احکام میں تفاضل کو ضروری بنا دیا

ہے، خاص طور سے ان مہمات اور وظائف میں جو دونوں میں سے ہر ایک کی خلقت و بناوٹ، قدرت و کارکردگی نیز انسانی زندگی کی گاڑی چلانے میں ہر ایک کے اپنے اختصاص کے مناسب ہے، تاکہ زندگی کامل و مکمل ہو جائے اور دونوں میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بعض احکام کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جو ان کی خلقت، وجود، ترکیب و بناوٹ، خصوصیات، اہلیت، صلاحیت ادائیگی، صبر و ہمت اور صلابت و متانت کے مناسب ہے۔ اور مرد کا تمام تر وظیفہ گھر سے باہر محنت و کمائی اور گھر والوں کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بعض احکام کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جو ان کی خلقت، وجود، ترکیب و بناوٹ، خصوصیات، اہلیت و ادا اور ضعف تحمل کے مناسب ہے۔ اور عورتوں کی تمام تر ذمہ داری و وظیفہ چہار دیواری کے اندر گھریلو امور کا قیام اور مستقبل کے نسل کی تربیت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا یہ قول بیان کیا ہے: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾ (آل عمران: ۳۶) ”اور مرد عورت جیسا نہیں ہے“۔ اور پاک ہے وہ ذات جو خلق، حکم، قضا و قدر اور قانون سازی کے ساتھ متصف ہے، ارشاد ربانی ہے: ﴿إِلَٰهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴) ”یاد رکھو! اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ، جو تمام عالم کا پروردگار ہے“۔

چنانچہ وہ تخلیق و تکوین اور خداداد ملکہ و صلاحیت میں اللہ تعالیٰ کا تقدیری و کوئی ارادہ ہے، اور یہ حکم و فیصلہ اور شریعت و قانون میں اس کا دینی و شرعی ارادہ ہے، اس طرح دونوں ارادے بندوں کے مصالح، کائنات کی تعمیر و ترقی، فرد کی زندگی، گھر، جماعت اور انسانی معاشرہ کے انتظام و انصرام پر جمع ہو گئے ہیں۔

ذیل میں ہم دونوں صنفوں میں سے ہر ایک کے بعض خاص و نئیفہ و کام کا ذکر کر رہے ہیں، چنانچہ بعض وہ احکام جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یہ ہیں کہ مرد حفاظت و رعایت، فضائل کی نگرانی و نگہبانی، رذائل کی روک تھام اور ہلاکت سے چراگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ گھر کا حاکم و نگران اور محافظ ہے، نیز وہ محنت و کمائی اور گھر والوں کے اخراجات کا ذمہ دار و ناظم ہے، ارشاد باری ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (النساء: ۳۴) ”مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں، پس نیک فرماں بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں“۔

اور اس ”قوامیت“ و حاکمیت کے اثر کو خود قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں لفظ ”تَحْتِ“ کے اندر ملاحظہ کریں، ارشاد ربانی ہے: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةٌ نُّوحٍ وَامْرَأَةٌ لُّوطٍ، كَانَتَا تَحْتِ عِبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا

صَالِحِينَ ﴿التحریم: ۱۰﴾ ”اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے ”ماتحت“ تھیں۔“

غور کریں آیت میں اللہ تعالیٰ کا قول ”تَحْتَ“ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ نوح و لوط علیہما السلام کی بیویوں کا ان کے شوہروں پر کوئی حکم نہیں چلتا تھا، بلکہ حاکمیت تو ان پر ان کے شوہروں کی تھی، چنانچہ عورت کو مرد کی برابر میں نہیں رکھا جاسکتا اور نہ کبھی اسے مرد پر فوقیت دی جاسکتی ہے۔

مردوں کے ساتھ خاص باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ نبوت و رسالت صرف طبقہ مردوں میں رہی ہے، عورتوں میں کبھی نہیں رہی۔ ارشادِ باری ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ (یوسف: ۱۰۹) ”آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد تھے، جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔“

مفسرین کرام لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نہ کسی فرشتہ کو، نہ کسی جن کو اور نہ ہی کسی بد کو۔“

اور عام ولایت اور اس کی نیابت مثلاً قضا و ادارت، نیز تمام ولایت جیسے نکاح کی ولایت تو یہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، عورت ولی نہیں بن سکتی۔ نیز مردوں کو بہت ساری عبادات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے جو عورتوں کے حق میں واجب نہیں، مثلاً جہاد، جمعہ، جماعت، اذان و اقامت کی فرضیت۔ اور طلاق

مرد کے اختیار میں ہے، عورت کے اختیار میں نہیں، نیز اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں۔

اسی طرح مرد کو میراث، دیت، شہادت، غلام کی آزادی اور عقیقہ میں عورت کے مقابلہ میں دوگنا حق دیا گیا ہے۔ اور یہ اور اس جیسے دوسرے احکام جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، بعینہ وہی معنی و مفہوم ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت (۲۲۸) کے آیت طلاق کے اخیر میں بیان کیا ہے، ارشاد الہی ہے:

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فوقیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے“۔

اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مخصوص کئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور عبادات، معاملات، نکاح اور اس سے متعلق امور اور فیصلہ و قضا وغیرہ باب کو شامل ہیں اور جو قرآن و سنت اور فقہ کی کتابوں میں معروف ہیں، بلکہ اس موضوع پر قدیم و جدید ہر دور میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں بعض احکام صرف عورت کے حجاب اور اس کی فضیلت و کرامت کی حفاظت سے متعلق ہیں۔

اور یہ الگ الگ احکام جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص کئے ہیں، وہ بہت سے امور کا فائدہ دیتے ہیں، جن میں تین امور خاص طور سے قابل ذکر ہیں:

پہلا امر: اس بات پر ایمان و رضامندی کہ مرد و عورت کے مابین حسی و معنوی اور شرعی فرق و تفاوت پائے جاتے ہیں اور ہر صنف کو اس پر رضامند رہنا چاہئے

جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں تقدیری و شرعی طور پر لکھ دیا ہے، اور یہ فرق و امتیاز عین عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اسی میں انسانی معاشرہ کی حیات کا بہترین انتظام منحصر ہے۔

دوسرا امر: کسی مسلمان مرد و عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس فرق و امتیاز کی تمنا کرے، جو اس کے بجائے دوسرے کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کے قضا و قدر پر ناراضگی اور اس کے حکم و شریعت پر عدم رضا کا اظہار مانا جائے گا اور ایک بندہ کو اپنے رب کا فضل مانگنا چاہئے۔ اور یہ ایسا شرعی ادب ہے جو آپس میں حسد کو دور کرتا ہے، مومن کے نفس کو سنوارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر رضا مندی کی عادت ڈالتا ہے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غلط تمنا و آرزو سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَالسَّوْءُ الَّذِیْ كَسَبُوْا یَاۤتِیْہُمْ وَاۤنۡہُمْ یَاۤسَیۡرُوْنَ ۗ﴾ (النساء: ۳۲) ”اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لئے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“

اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جسے مجاہد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا مرد

جہاد کریں اور ہم عورت نہ کریں اور ہمارے لئے میراث میں نصف حصہ ہو؟ اس پر مذکورہ آیت ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ.....﴾ نازل ہوئی، اسے امام طبری، احمد اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ”تم اس بات کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے مردوں کے درجہ پانے کی تمنا و خواہش کی تھی کہ ان کو بھی وہی حق ملنا چاہئے جو مردوں کو حاصل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باطل تمنائوں سے منع فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سے اس کا فضل مانگیں، کیونکہ تمنائیں اہل تمنا کے اندر حسد و کینہ اور ناحق سرکشی و بغاوت پیدا کرتی ہیں“۔

تیسرا امر: اگر نص قرآنی کے مطابق یہ صرف تمنا و خواہش سے منع ہے تو اس آدمی کو بھی بدرجہ اولیٰ منع ہونا چاہئے جو مردوزن کے مابین شرعی فرق و امتیاز کا انکار کرتا ہے اور اس کے الغاء پر آواز بلند کرتا ہے، نیز ان کے مابین مساوات کا مطالبہ کرتا ہے اور اس بات کی ”مساوات مردوزن“ کے نام پر دعوت دیتا ہے۔ اس لئے بلاشک و شبہ یہ ملحدانہ نظریہ ہے، کیونکہ یہ نظریہ دونوں صنفوں کے مابین تخلیقی و معنوی فرق و تفاوت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے تقدیری و کوئی ارادہ سے جنگ کے مترادف ہے اور بہت سارے احکام میں مردوزن کے مابین فرق و امتیاز والے شرعی

نصوص کو اٹھا کر دریا برد کر دیتا ہے، جس کی بعض تفصیل سابقہ صفحات میں گزر چکی ہیں۔
 بالفرض اگر تخلیق و صلاحیت میں فرق و تفاوت کے باوجود تمام احکام میں
 مساوات مرد و زن تسلیم کر لی جائے، تو نہ صرف یہ فطرت کے خلاف اور فاضل
 و مفضول پر عین ظلم ہے، بلکہ یہ پورے انسانی معاشرہ کی زندگی پر ظلم ہے، کیونکہ اس
 صورت میں فاضل کو اس کے ثمرات صلاحیت سے محرومی اور مفضول پر اس کی
 صلاحیت سے زائد بوجھ ڈالنا لازم آتا ہے، اور اللہ حکم الحاکمین کی شریعت میں
 رائی کے دانہ برابر بھی ظلم ہونا بعید ہے۔ اس وجہ سے ان روشن احکام شریعت کے
 سایہ تلے ہی عورت کی امومت، تدبیر منزل اور امت کے آئندہ نسل کی تربیت کے
 حق میں پوری ضمانت و گارنٹی ہے۔

اللہ تعالیٰ علامہ محمود بن محمد شاہ کر پر رحم فرمائے، موصوف امام طبری کے سابقہ
 کلام پر حاشیہ طرازی کرتے ہوئے (۲۶۰/۸) میں لکھتے ہیں: ”لیکن یہ تمنا و آرزو کا
 وہ باب ہے جس میں موجودہ دور کے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور اس کے صحیح مفہوم
 میں ایسی باتیں خلط ملط کر دی ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، البتہ صدق نیت،
 فطرت انسانی کے صحیح فہم، بے بنیاد باطل خواہشات کے مابین تفریق، اکثریت کی
 تقلید کے پٹے سے خروج اور بگڑے معاشرہ کی غلامی سے آزادی کے ذریعہ ممکن ہے،
 جو آج شدید طور پر امت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری ملت کے لوگ۔
 اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے امور کی اصلاح کرے۔ گمراہی کی طرف سرپیٹ
 دوڑ پڑے ہیں۔ اور عقل و حکمت اور جرأت مندی کے ذریعہ فاسد امور کی اصلاح کیا

ہے، اور اصلاح کی صورت میں بگاڑ کیا ہے، ان دونوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ قوم نے غلو کی شروعات کر دی ہے اور حاسد داعیوں کی کثرت ہو گئی ہے جو وقت کی صحافت کے تحت پر اجماع ہیں، یہاں تک کہ زبانیں بگڑ گئی ہیں، عقلیں خراب ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگ ان داعیوں کے ساتھ پھسل گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم کو جو خود کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس بارے میں ایسی بات کہتے ہوئے پایا گیا ہے کہ جس سے ہر دیندار شخص برأت کا اظہار کرے گا۔ اور اس کے مابین کہ امت کے مرد و عورت مصائب و آفات اور جہالت و گمراہی سے پاک و صاف زندگی گزاریں اور اس کے درمیان کہ امت مرد و زن کے مابین ہر پردہ و آڑ کو اتار پھینکے، اور سارا معاملہ صرف باطل تمناؤں کا رہ جائے جو ان میں آپس میں حسد اور ناحق بغاوت و سرکشی پیدا کرے، بہت بڑا فرق ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ ہی کے لئے اس کی خوبی ہے اور اسی کے لئے اس کا جوہر، اے اللہ! ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ایسے دور میں کہ جس میں زبان نے عقل کی خیانت کاری کی، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم و فیصلہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان کو ایسی مصیبت پہنچ جائے جو ان کے زمین کے بقیہ نشانات کو ختم کر کے رکھ دے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ختم کر دیا تھا،۔

چنانچہ اس اصول سے مرد و عورت کے مابین حسی و معنوی اور شرعی فرق و تفاوت کا ثبوت ہو گیا، اور اسی اصول پر دونوں صنفوں کے درمیان حجاب و زینت میں فرق کے دوسرے اصول مبنی ہیں۔

دوسرا اصول

حجابِ عام

”حجاب“ کا عام معنی روکنا اور پردہ کرنا ہے۔ حجاب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، چنانچہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اور ہر صنف ایک دوسرے سے حجاب کرے، اور ہر صنف اپنی فطرت و جبلت اور اپنی حیات کے جائز وظیفہ کے مناسب حال حجاب کرے، اس طرح دونوں صنفوں کے درمیان تخلیقی، صلاحیتی اور اپنے جائز وظیفہ کے مطابق حجاب کے فرق و تفاوت کا اعتبار ہوگا۔

اس لئے مردوں پر اپنے ستر ناف سے گھٹنہ تک مرد و عورت دونوں سے چھپانا واجب ہے، البتہ اپنی بیوی اور لونڈی سے ضروری نہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے خواہگا ہوں میں باشعور بچوں کے ایک ساتھ سونے سے منع کیا ہے اور ان کو علیحدہ والگ بسترہ پر سلانے کا حکم دیا ہے، تاکہ لمس و نظر کے خطرہ سے محفوظ رہے کہ جس سے شہوت میں اشتعال پیدا ہو سکتا ہے۔

اور نماز میں مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کندھے کھلے ہوئے ہوں اور ان پر کوئی کپڑا نہ ہو، نیز برہنہ مرد و عورت خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے اور نہ ہی دونوں صنفوں میں سے کوئی برہنہ نماز پڑھ

سکتا ہے خواہ وہ رات میں تنہا پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔
 اور نبی کریم ﷺ نے برہنہ چلنے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَمْشُوا عُرَاةً﴾ (تم برہنہ نہ چلا کرو)، نیز نبی کریم ﷺ نے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی تنہائی میں برہنہ ہونے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيِيَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ﴾ (اللہ تعالیٰ انسانوں کے مقابلہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے)، نیز حج و عمرہ کے لئے احرام باندھنے کے موقع پر دونوں صنفوں کے درمیان فرق و امتیاز سب کو معلوم ہے۔

اور مردوں کو ہر اس لباس یا زینت سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے اس کے مردانہ پن میں فرق و خلل آئے، مثلاً لباس، زیور، یا گفتگو، یا اس جیسی دوسری باتوں میں عورتوں کی مشابہت۔ نیز مردوں کو ٹخنہ سے نیچے دامن لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ عورتوں کو اپنے قدموں کو چھپانے کی غرض سے بقدر ذراع کپڑا لٹکانے کا باقاعدہ حکم ہے۔

اور شریعت نے مومنین کو شرمگاہوں سے اور ہر اس بات سے کہ جس سے شہوت میں اشتعال پیدا ہو، نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ نفس کو ہر اس چیز کے دیکھنے سے کہ جس سے اس کے حرام کاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، دور رکھنے میں نہایت ہی عظیم شرعی ادب ہے، نیز مردوں کو مردوں کے ساتھ

خلوت اور ان کو شہوت کے ساتھ دیکھنے سے، یا مطلقاً شہوت مشتعل ہونے کا خطرہ ہو، بہر صورت منع کیا گیا ہے۔

اور اس طرح کے احکام گناہوں و ناپاکیوں سے تزکیہ و طہارت کے وسائل ہیں، جن سے ایمان کی حلاوت، قلب کا نور و تقویت، شرمگاہوں کی حفاظت، فواحش و زنا کاری اور مروت شکن امور سے عفت اور شرم و حیا کا تحفظ جیسے امور نشوونما پاتے ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ﴿الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ﴾ ”حیا صرف خیر ہی لاتی ہے“۔

تیسرا اصول

حجابِ خاص

تمام مسلمان عورتوں پر شرعی حجاب کا التزام شرعاً واجب و فرض ہے، جو پورے جسم کو چہرہ و ہتھیلی سمیت چھپانے والا ہو، اور حجاب ہر اجنبی مرد سے تمام کبھی زینت و لباس اور زیور وغیرہ کا ہو۔ اس پر قرآن و سنت کے متعدد دلائل موجود ہیں، نیز دور نبوی سے لیکر خلفاء راشدین کے زمانہ تک اس پر مومن عورتوں کا عملی اجماع رہا ہے، پھر قرون مفضلہ سے ہو کر چودھویں صدی کے نصف میں اسلامی حکومت کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونے تک اس پر متواتر عمل

چلا آ رہا ہے، نیز حجاب کی فرضیت پر صحیح آثار اور قیاس جلی کی دلالت، اور جلبِ مصالِح اور دفعِ مفسد کا صحیح اعتبار و قاعدہ بھی موجود ہیں۔

اور عورت پر فرض یہ حجاب اگر وہ اندرون خانہ ہو، تو دیوار اور پردہ سے ہوگا، اور اگر وہ اجنبی مرد کے روبرو ہو، خواہ اندرون خانہ ہو یا بیرون خانہ، بہر دو صورت حجاب شرعی لباس: (چادر، دوپٹہ اور برقعہ) سے ہوگا، جو عورت کے پورے جسم اور کبھی زینت کو سا تر ہو، جیسا کہ اس امر پر نصوص دلالت کناں ہیں کہ حجاب کا اس وقت تک شرعی حجاب میں شمار نہیں ہوگا، جب تک اس کے تمام شرائط پورے نہ ہوں۔ اور حجاب اپنے اندر بہت سارے بڑے فضائل، خیر کثیر اور کامل شرافت و کرامت رکھتا ہے، اس وجہ سے شریعت ایسے اسباب و ذرائع کو اپنے احاطہ میں جمع کر رکھی ہے، جو اس کی پامالی و پردہ درمی، یا اس معاملہ میں تساہل پر قدغن لگا دے۔

اب اس اصول پر گفتگو چار مسائل پر منحصر ہے:

پہلا مسئلہ : حجاب کی تعریف۔

دوسرا مسئلہ : حجاب کس چیز کا ہو؟

تیسرا مسئلہ : مومن عورتوں پر حجاب کی فرضیت کے دلائل۔

چوتھا مسئلہ : حجاب کے فضائل اور اس کی خوبیاں۔

اب ہر ایک کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے:

پہلا مسئلہ: عورت کے حجاب کی شرعی تعریف:

’حجاب‘ مصدر ہے اور لغت میں اس کا معنی چھپانا، آڑ کرنا اور روکنا ہے۔

اور شرعاً عورت کا حجاب یہ ہے: عورت کا اپنے پورے جسم و زینت کو اس طرح چھپانا کہ اجنبی مردوں کو اس کے بدن کے کسی بھی حصہ کو، یا اس کی زینت کو دیکھنے سے روک دے، جس سے وہ آرائش و زیبائش کرتی ہے، اور یہ حجاب لباس اور گھر کے ذریعہ ہو۔

اور بدن کو چھپانے میں سارا بدن شامل ہے، اس میں چہرہ اور ہتھیلی بھی داخل ہیں۔ اس کی دلیل تیسرے مسئلہ میں انشاء اللہ بیان کی جائے گی۔

اور زینت کو چھپانے میں ہر وہ زینت و سنگھار داخل ہے جس سے عورت اپنے پیدائشی حسن و جمال کے علاوہ بناؤ و سنگھار کرتی ہے۔ اور آیت: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ (النور: ۳) ”اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں“۔ میں ”زینت“ کا یہی معنی و مفہوم ہے جسے کسی زینت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور فرمان الہی: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے) میں مستثنیٰ یہی ظاہری کسی زینت ہے کہ جس کو دیکھنے سے عورت کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا لازم نہیں آتا، مثلاً چادر یا برقعہ کا اوپری حصہ، کیونکہ وہ اضطراری طور پر ظاہر ہوتا ہے، نیز اگر چادر ہوا سے اڑ جائے اور اندرونی لباس ظاہر ہو جائے، تو یہ بھی فرمان الہی: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کے استثناء میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) ”کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا“، یعنی گویا کہ یہ اضطراری طور پر ظاہر ہوا ہے، اس کے اپنے اختیار سے نہیں۔

”جس کے دیکھنے سے عورت کے بدن کا کوئی حصہ دیکھنا لازم نہیں آتا“، اس

سے اس زینت سے احتراز مقصد ہے، جس سے عورت بناؤ سنگھار کرتی ہے اور اس کے دیکھنے سے اس کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا لازم آتا ہے، مثلاً آنکھ کا سرمہ کہ اس کو دیکھنے سے چہرہ یا چہرے کا بعض حصہ دیکھنا لازم آئے گا۔ اور مثلاً ہاتھ میں خضاب اور انگوٹھی کہ ان کو دیکھنے سے ہاتھ کا دیکھنا لازم آتا ہے، نیز بالی، ہار اور کنگن وغیرہ کہ ان زینتوں کو دیکھنے سے جسم کے ان حصوں کو بھی دیکھنا لازم آتا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔

اور آیت میں ”زینت“ کا مفہوم، ”کسی زینت“ ہے، بعض اجزاء بدن نہیں، کیونکہ اس پر دو امور دلالت کرتے ہیں:

پہلا امر یہ ہے کہ عربی لغت میں ”زینت“ کا یہی معنی ہی ہے۔

دوسرا امر یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ ”زینت“ سے مراد ”خارجی زینت“ یا کسی زینت ہوتی ہے، اور اس سے اس اصل کے بعض اجزاء مراد نہیں ہوتے۔ اس طریقہ پر سورہ نور کی آیت کا معنی اور زینت کی تفسیر ”کسی زینت“ سے ملا کر کہ جس کو دیکھنے سے آرائش شدہ بدن کا کچھ بھی حصہ دیکھنا لازم نہیں آتا، ہی وہ مفہوم ہے جس سے فرضیتِ حجاب سے شریعت کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور وہ ہے: ”پردہ، عفت، حیا، غضبِ بصر، شرمگاہ کی حفاظت اور مرد و عورت کے قلوب کی طہارت“۔ اور یہ عورت کے بارے میں غلط طمع کو کاٹتا ہے، اور یہی شک و شبہ اور فتنہ و فساد کے اسباب سے بعید تر ہے۔

دوسرا مسئلہ: حجاب کس چیز کا ہو؟

ہم یہ معلوم کر آئے ہیں کہ ”حجاب“ ایک عام لفظ ہے، جس کا معنی چھپانا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد وہ شئی ہے جو عورت کے جسم اور کبھی زینت کپڑا، زیور وغیرہ کو اجنبی مردوں سے چھپائے۔ اور یہ بات نصوص کی دلائل کے مکمل استقصاء و استقراء سے دو میں سے کسی ایک امر میں پائی جاتی ہے:

پہلا امر: خانہ نشینی سے حجاب، کیونکہ خانہ نشینی عورت کو اجنبی مرد کی نگاہوں اور ان کے ساتھ اختلاط سے پردہ میں رکھتی ہے۔

دوسرا امر: لباس سے حجاب، اور یہ چادر، دوپٹہ، عبایہ اور برقعہ سے ہوتا ہے، اس طرح لباس سے حجاب کی تعریف یوں ہوگی:

”عورت کا اپنے پورے جسم کو چہرہ، ہتھیلی اور قدم سمیت، نیز اپنی کبھی زینت کو ایسے لباس سے چھپانا جو اجنبی مردوں کو اس کے دیکھنے سے روک دے۔ اور یہ حجاب ”جلباب“ (لمبی چادر) اور ”خمار“ (دبیز اوڑھنی) سے ہوگا۔

۱۔ ”خمار“ کی جمع ”خُمُر“ ہے، اور اس کا معنی چھپانے اور ڈھانکنے کے مابین دائر ہے۔ اور خمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر، چہرہ، گردن، گریبان اور سینہ چھپاتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جسے آپ ڈھانپ دیں یا پردہ کر دیں، گویا آپ نے اس کو اوڑھنی اڑھا دیا۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک آدمی کی حالت احرام میں اس کی سواری نے گردن توڑ دی تھی، تو اس کے حق میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا تَخْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ﴾ (اس کے سر ڈھانکو اور نہ چہرہ)۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی معنی

میں یہ مشہور حدیث پاک ہے: ﴿خَمْرُوا آيَتَكُمْ﴾ (تم اپنے برتنوں کو رات کو سوتے وقت ڈھانک دیا کرو)۔ اور اسی معنی میں نمیری کا یہ قول ہے:

يُخَمَّرْنَ أَطْرَافَ الْبِنَانِ مِنَ التَّقَىٰ وَيَخْرُجْنَ جَنَحَ اللَّيْلِ مُتَعَجِرَاتٍ
(وہ عورتیں پرہیزگاری کے سبب انگلیوں کے پوروں تک کو چھپالیتی ہیں اور رات کے وقت کپڑوں میں خود کو چھپا کر نکلتی ہیں)۔

اوڑھنی اور دوپٹہ کو عربی زبان میں ”مقنع“ کہتے ہیں جو ”تقنع“ جس کے معنی چھپانے کے ہیں، سے ماخوذ ہے۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث پاک بھی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو يَقْنَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ﴾ (نبی کریم ﷺ جب دو رکعت نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ مبارک کو ڈھانک لیتے تھے)۔

دوپٹہ کو ”نصیف“ بھی کہتے ہیں، نابغہ شاعر ایک عورت کی تعریف میں کہتا ہے:
سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرْذِ إِسْقَاطُهُ فَتَنَاوَلْتَهُ وَاتَّقْتَنَا بِالْيَدِ
”اس کا دوپٹہ گر گیا، مگر وہ گرانا نہیں چاہتی تھی، پھر اس نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ کے آڑ سے ہم سے پردہ و بچاؤ کیا“۔

دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ: یہ ہے کہ عورت دوپٹہ کو اپنے سر پر رکھے، پھر اسے اپنی گردن پر بل دے کر اور چہرہ پر گھما کر موڑے، پھر اس کے پلو کو چہرہ، گریبان اور سینہ پر ڈال لے۔ اس طرح گھر میں عام عادت کے مطابق جو اعضاء کھلا رکھنے کا

رواج ہے، انہیں چھپانے اور ڈھانکنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔
 دوپٹے کے لئے شرط: یہ ہے کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے بال،
 چہرہ، گردن، گریبان، سینہ اور بالی کی جگہ کان وغیرہ جھلکے۔

امِ عاتقہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابوبکر کو
 دیکھا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں داخل ہوئی، وہ باریک دوپٹہ
 اوڑھے ہوئے تھی جس سے اس کی پیشانی جھلک رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 اس کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور فرمایا: ﴿أَمَا تَعْلَمِينَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي سُورَةِ
 النُّورِ﴾ (تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا نازل فرمایا ہے؟)،
 پھر آپ نے ایک دوپٹہ منگوا لیا اور حفصہ کو اڑھا دیا۔ اسے ابن سعد اور امام مالک
 وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

۲۔ ”جلباب“ کی جمع ”جلا بیب“ ہے، اور ”جلباب“ اس دبیز چادر کو کہتے
 ہیں جسے عورت اپنے اوپر سر سے پیر تک لپیٹ لیتی ہے اور جو اس کے پورے جسم اور
 جسم کے کپڑے وزینت کو چھپانے والی ہے۔ اسے ”عباءة“ بھی کہتے ہیں۔

چادر اوڑھنے کا طریقہ: یہ ہے کہ عورت اسے اپنے سر پر رکھے اور اپنے
 دوپٹے، پورے جسم اور اس کی وزینت و سنگھار پر ڈالتے ہوئے اپنے قدموں کو اس
 سے چھپالے۔

اس تفصیل سے عیاں ہو جاتا ہے کہ چادر کے اپنے وظیفہ کو ادا کرنے کے لئے،
 (اور وہ ہے عورت کے جسم کے نشیب و فراز اور اس کے کپڑے وزینت و زیورات

سب کو چھپانا) درج ذیل شرائط ہیں:

۱۔ چادر دبیز ہو، اتنی باریک اور شفاف نہ ہو کہ اس کے نیچے سے جسم نظر آئے۔

۲۔ وہ چپکنے والی خاصیت کے کپڑے سے نہ بنی ہو۔

۳۔ اتنی ڈھیلی ڈھالی اور چوڑی ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہوتے ہوں۔

۴۔ چادر کا صرف آگے کا حصہ کھلا ہو، اور آستین کی چوڑائی تنگ ہو۔

۵۔ چادر سر کے اوپر سے اوڑھی گئی ہو، کندھوں پر سے نہیں۔ کندھے پر سے

چادر اوڑھنا ”جلباب“ کے معنی کی مخالفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں پر

فرض کیا ہے اور اس صورت میں جسم کے بعض اعضاء کھلے رہ جاتے ہیں، نیز اس میں

مردوں کے لباس چادر و چغہ وغیرہ کی مشابہت ہے۔

۶۔ چادر خود زینت نہ ہو اور نہ اس میں ظاہری زینت کڑھائی، کشیدہ کاری،

نقش و نگار، نشان اور نام لکھائی کا اضافہ کیا گیا ہو۔

۷۔ چادر (عباءة۔ برقعہ) سر کے اوپر سے پیر کے نیچے تک ساتر و چھپانے

والی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فراق وغیرہ جیسا لباس جو عورت کے صرف گھٹنے تک

چھپاتا ہے، شرعی لباس نہیں ہے۔

ایک انتباہ: آج کل یہ نیا فیشن چلا ہوا ہے کہ عباءة یا چادر پر عورت کا نام، یا

نام کا پہلا حرف جلی حرفوں میں لکھواتے ہیں تاکہ اسے دور سے پڑھا جاسکے۔ یاد

رکھیں! یہ عورت کے ساتھ ایک جدید قسم کا لغو کھیلاڑ اور بہت بڑا فتنہ ہے، جس کا

وبال خود عورت پر لوٹ آئے گا۔ اس لئے یہ عمل نہ صرف حرام ہے، بلکہ اس کی

تجارت بھی ناجائز ہے۔

تیسرا مسئلہ: مسلمان عورتوں پر فرضیت حجاب کے دلائل:

یہ بات معلوم ہے کہ عصر صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد کے ادوار سے برابر چلا آ رہا متواتر متواتر عمل شرعی حجت ہے، جس کا اتباع واجب اور جسے تسلیم و قبول کرنا فرض ہے۔ اور مومنین کی عورتوں کے درمیان چلا آ رہا متواتر یہ عملی اجماع متواتر ہے کہ عورت گھر میں رہتی اور بلا ضرورت و حاجت گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، نیز عورت اجنبی مرد کے سامنے بے حجاب، کھلے چہرہ اور اپنے جسم کے کسی بھی حصہ کو کھولے اور زینت کی نمائش کئے نہ نکلتی تھی۔ اور پوری امت مسلمہ کا اس عمل پر اتفاق و اجماع ہے جو عفت و عصمت، طہارت و پاکیزگی، شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا محل تعمیر کرنے کے ان کے مقاصد کے ہم آہنگ ہے کہ اس نے اپنی عورتوں کو کھلے چہرہ اور ان کی جسم وزینت میں سے کچھ بھی بے حجاب و بے پردہ کئے ہوئے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔

الغرض یہ دونوں اجماع صدر اسلام اور صحابہ و تابعین کے دور سے معروف و متواتر چلے آ رہے ہیں اور ان کو ائمہ کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے، ان میں حافظ ابن عبدالبر، امام نووی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ ہیں۔ اور ان پر عمل چودھویں صدی ہجری کے نصف تک جبکہ اسلامی خلافت چند حکومتوں میں تقسیم ہو گئی، ہوتا رہا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (فتح الباری ۹/۲۲۴) میں لکھتے ہیں: ”قدیم و جدید ہر دور

میں عورتوں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرہ کا پردہ کرتی تھیں۔ اور سب سے پہلے چہرہ سے دوپٹہ اتار کر عورت کو بے حجاب کرنے کی ابتدا مصر میں ہوئی، پھر ترکی، پھر شام، پھر عراق میں ہوئی اور مغرب اسلامی میں نیز غیر عرب ملکوں میں پھیل گئی، پھر اس بے پردگی تک ترقی ہوئی جسے بے حیائی کی انتہا اور پورے جسم سے ساتر کپڑوں کی عریانیت کہا جاسکتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جزیرۃ العرب میں اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان سے اس مصیبت کو دور کرے۔ آمین۔

اب فرضیت حجاب کے دلائل بیان کئے جاتے ہیں:

اولاً: قرآن کریم سے دلیل: سورہ نور و احزاب میں فرضیت حجاب کی ابدی اور تمام مومن عورتوں پر عمومی دلالت کرنے والی متعدد آیات کریمہ مختلف نوعیت سے وارد ہوئی ہیں، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

پہلی دلیل: ارشاد ربانی ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (اپنے گھروں میں قرار سے رہو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الاحزاب: ۳۲ تا ۳۳) ”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر

تم پر ہیڑگاری اختیار کرو، تو تم نرم لہجہ میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں! قاعدہ کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، اور زکاۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والو! تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب نبی کریم ﷺ کی بیویوں کو ہے، اور اس ضمن میں تمام مسلمان عورتوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی بیویوں کو آپ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کے سبب خاص طور سے خطاب کیا، اور اس سبب سے کہ امہات المؤمنین ہی مومن عورتوں کے لئے قدوہ و نمونہ ہیں، نیز اس وجہ سے کہ رسول اللہ ﷺ سے ان کی قرابت و رشتہ داری ہے۔ ارشادِ بانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶) ”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ“۔ جبکہ ازواجِ مطہرات سے فاحشہ کے وقوع کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور وہ اس طرح کی حرکت سے کوسوں دور ہیں۔ اور قرآن و سنت کے ہر خطاب کو اسی پر محمول کیا جائے کہ وہ سب کے لئے عام ہوتا ہے، کیونکہ شریعت و قانون میں عموم ہوتا ہے۔ نیز لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں، جب تک خصوصیت کی دلیل نہ آجائے۔ اور یہاں خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہی حال اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول ﷺ کے خطاب

کا بھی ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵) ”اے نبی! اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً تو زیاں کاروں میں ہو جائے گا“۔

اس لئے ان دونوں آیات کریمہ اور ان جیسی دوسری آیتوں کا حکم بدرجہ اولیٰ تمام مومن عورتوں کے لئے عام ہوگا۔ یہی صورت حال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ﴾ (الإسراء: ۲۳) ”تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا“، اف کہنے کی حرمت کی ہے، تو والدین کو مارنا پیٹنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔ بلکہ سورہ احزاب کی مذکورہ دونوں آیات میں یہ ضمیمہ بھی موجود ہے جو اس حکم کے امت کی تمام عورتوں کے لئے عام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (اور نماز ادا کرتی رہو اور زکاۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو)، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ مذکورہ احکام دین کے عام فرائض میں سے ہیں، امہات المؤمنین کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی تو مذکورہ دونوں آیات کریمہ میں تمام مومن عورتوں پر فرضیتِ حجاب اور چہرہ چھپانے کے وجوب کی تین وجہوں سے دلیل موجود ہے:

پہلی وجہ: نرم لہجہ میں گفتگو سے ممانعت:

اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اور ان کے ضمن میں تمام مومن عورتوں کو نرم لہجہ میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ مردوں سے انکساری کے ساتھ نرم

وشیریں لہجہ میں گفتگو کرنا ہے۔ اور اس ممانعت میں اس شخص کی طمع سے حفاظت کا سامان ہے جس کے دل میں شہوتِ زنا کا مرض اور اس کے اسباب اختیار کرنے کے لئے دل میں تحریک موجود ہے۔ اور عورت صرف بقدر حاجت بلاطول و تفصیل اور بلا نرم و شیریں لہجہ کے اجنبی مردوں سے گفتگو کرے گی۔

اور شیریں لہجہ میں گفتگو سے ممانعت بدرجہ اولیٰ مومن عورتوں پر فرضیتِ حجاب کی انتہائی مضبوط دلیل ہے، کیونکہ شیریں لہجہ میں گفتگو نہ کرنا شرمگاہ کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کے جذبہ و محرک کے بغیر عدم نرم لہجگی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سارے معانی حجاب میں پنہاں ہیں اور اسی سبب سے صراحت کے ساتھ خانہ نشینی کے ذریعہ حجاب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بعد والی وجہ میں آرہی ہے۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو) میں ہے۔ اور یہ عورتوں کا گھروں میں رہ کر اجنبی مردوں سے اپنے جسم و زینت کا حجاب و پردہ کرنا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امہات المؤمنین کو اور اس قانون میں ان کے ضمن میں تمام مومن عورتوں کو گھروں میں سکون و اطمینان اور امن و قرار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر ہی عورت کی زندگی کے عمل و طیفہ کا مستقر و ٹھکانہ ہے۔ اور بلا ضرورت و حاجت گھر سے خروج سے باز رہنا ہی اس کا فرض اولین ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا﴾ (عورت ستر کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان صفت آدمی اسے ٹکلی لگا کر دیکھتا ہے، اور عورت اپنے رب کی رحمت سے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرون خانہ میں ہوتی ہے)۔ اسے امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (فتاویٰ ۱۵/۲۹۷) میں رقمطراز ہیں: ”کیونکہ عورت کی حفاظت و صیانت ایسی چیز کے ساتھ واجب و ضروری ہے، جس کی مثل بھی مرد کے حق میں ضروری نہیں ہے۔ اسی سبب سے عورت کو حجاب، عدم اظہار زینت اور ترک تبرج کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس لئے عورت کے حق میں لباس اور گھر کے ذریعہ ایسی بات کا حجاب ضروری ہے جو مرد کے حق میں واجب نہیں، کیونکہ مردوں کے جھرمٹ میں عورت کا ظہور رفتہ کا سبب ہے۔ اور مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں“۔

نیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (فتاویٰ ۱۵/۳۷۹) میں لکھتے ہیں: ”اور جیسے یہ آیت دوسرے کی شرمگاہ اور اس جیسی محرمات سے غضب بصر کو شامل ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے گھروں سے بھی غضب بصر کو شامل ہے، کیونکہ جس طرح آدمی کو اس کا کپڑا چھپاتا ہے، اسی طرح آدمی کے جسم کو اس کا گھر چھپاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت استنذان (اجازت لینے) کے بعد غضب بصر اور حفظ فرج کا ذکر کیا ہے،

تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ گھر بھی آدمی کا پردہ ہے، جیسے کپڑے جسم کا پردہ ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں دونوں لباسوں کو ایک جگہ ایک ساتھ بیان کیا ہے:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِیلَ تَقِیْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِیلَ تَقِیْكُمْ بِأَسْكُمْ﴾ (النحل: ۸۱)

”اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کے ٹھکانے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں“۔ چنانچہ ان میں ہر چیز ضرر رساں چیز سے حفاظت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ ضرر رساں چیز سموم ہو جیسے گرمی، دھوپ اور ٹھنڈک، اور خواہ وہ بنو آدم کی جانب سے نظر بد اور موذی ہاتھ وغیرہ ہو“۔

تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾

(اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو) ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، تو ان کو جاہلیت کے بناؤ سنگھار کے ساتھ کثرت خروج سے منع کر دیا، اور وہ بھی خوب بن سنور کر، خوشبوؤں میں غرق، بے حجاب چہرہ اور زینت و محاسن کی نمائش کر کے جسے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اور ”تبرج“، ”برج“ سے ماخوذ ہے، اسی سے اظہار زینت و محاسن میں توسع و وسعت کا معنی ہے، مثلاً سر، چہرہ، گردن، سینہ، ہاتھ، پنڈلی، جسمانی ساخت، یا کسی زینت کا اظہار، کیونکہ کثرت خروج، یا بے پردگی کے ساتھ

خروج میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہے۔ اور جاہلیت کا وصف ”اولیٰ“ کے ساتھ وصف کاشف ہے جیسے اللہ کے قول: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرة: ۱۹۶) ”یہ پورے دس ہیں“، میں لفظ ”کاملتہ“ اور جیسے اللہ کے قول: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ (النجم: ۵۰) ”اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا ہے“ میں لفظ ”اولیٰ“ وصف کاشف ہے۔

اور تبرج بہت ڈھنگ سے ہوتا ہے، تفصیل ”چھٹے اصول“ میں آرہی ہے۔

دوسری دلیل: آیت حجاب:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدَهُ أَبْدَاءً، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (الأحزاب: ۵۳ تا ۵۵) ”اے ایمان

والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لئے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے، جاؤ اور جب کھا چکے نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردہ کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، یاد رکھو! اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی و غلام) کے سامنے ہوں، عورتو! اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔“

مذکورہ آیات میں پہلی آیت ”آیت حجاب“ کے نام سے معروف ہے، کیونکہ یہی پہلی آیت ہے جو امہات المؤمنین اور مومن عورتوں پر فرضیت حجاب کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت کا نزول ذوالقعدہ ۵۰۰ھ کو ہوا تھا۔

آیت کا شان نزول: اس آیت کے سبب نزول میں انس رضی اللہ عنہ کی ثابت حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ﴿بَارَسُؤَلَ اللَّهِ! يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

بِالْحِجَابِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ ﴿﴾ (اے اللہ کے رسول! آپ پر نیک و فاجر ہر قسم کے لوگ داخل ہوتے رہتے ہیں، اگر آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا حکم دے دیں تو بہتر ہے۔ اس پر آیت حجاب نازل ہوئی)۔ اسے امام احمد اور بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔

اور یہ ان باتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور ظاہر ہے یہ آپ کے عظیم مناقب میں سے ایک ہے۔

اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نہ صرف نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کو اجنبی مردوں سے حجاب کرنے کا حکم دیا، بلکہ صحابہ کرام نے اپنی عورتوں کو اجنبی مردوں سے حجاب کرایا۔ اور وہ تھاسر سے لے کر قدموں تک جسم وزینت کا حجاب۔ اس لئے حجاب قیامت تک ہمیشہ کے لئے ہر مومن عورت پر فرض ہے، اور فرضیت حجاب پر اس آیت کی دلالت درج ذیل وجوہ کی بنیاد پر ہے:

پہلی وجہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے اپنی عورتوں سے چہرہ، پورے جسم اور کسی زینت کا حجاب کرایا، اور یہ حجاب مومن عورتوں میں برابر جاری رہا۔ یہ عملی اجماع ہے جو آیت میں اس حکم کے تمام مومن عورتوں کے لئے عام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لئے علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں (۲۲/۲۹) لکھتے ہیں: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

”کہ جب تم نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور مومن عورتوں سے جو تمہاری بیوی نہیں ہیں، کوئی چیز طلب کرو، تو اس پردہ کے پیچھے سے طلب کرو جو تمہارے اور ان کے درمیان حائل ہو“۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ ”تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے کامل پاکیزگی یہی ہے“ میں فرضیت حجاب کی علت اشارہ و تنبیہ کے طور پر بیان ہوئی ہے، جو ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ”تو پردہ کے پیچھے سے طلب کرو“ میں حکم دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر حکم کی علت اپنے معلول کے لئے عام ہے، کیونکہ مرد و عورت کے قلوب کی طہارت اور شکوک و شبہات سے سلامتی تمام مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اس لئے تمام مومن عورتوں پر فرضیت حجاب، امہات المؤمنین پر فرضیت کے مقابلہ میں بدرجہ اولیٰ ہوگی، جبکہ ازواج مطہرات ہر عیب و برائی سے پاک و بری ہیں۔ (رضی اللہ عنہن)۔

اب یہ بات واضح ہوگئی کہ فرضیت حجاب کا حکم تمام عورتوں کے لئے عام ہے، ازواج النبی ﷺ کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ حکم کی علت کا عموم اس حکم کے عموم کی دلیل ہے۔ اور کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ: ”تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے“ کی علت کسی بھی مومن آدمی سے مطلوب نہیں ہے؟ پس کیا خوب ہے یہ جامع علت جو فرضیت حجاب کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے مقصد کو نہیں چھوڑا، مگر اسے اپنے اندر ضرور شامل کر لیا۔

تیسری وجہ: لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں، الا یہ کہ

خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو خاص اسباب کے تحت نازل ہوئی ہیں، اب ان آیات کے احکام کو ان خاص اسباب کے دائرہ میں بلا دلیل محصور کر دینا شریعت کو معطل کر دینے کے مترادف ہے، پھر ان آیات سے مومنین کے حق میں کون سا فائدہ آئے گا؟

الحمد للہ یہ بات بالکل عیاں ہے، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ شریعت میں خطاب کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے خطاب کا حکم امت کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ تمام افراد امت احکام تکلیف میں برابر ہیں، جب تک کوئی ایسی دلیل نہ وارد ہو جس کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جائے اور وہ تخصیص پر دلالت کناں ہو۔ اور یہاں پر تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت فرمایا تھا: ﴿إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، وَمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ﴾ ”میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور میرا کسی ایک فرد عورت سے کہنا سو عورتوں کو کہنے کے مثل ہے۔“

چوتھی وجہ: نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات تمام مومنین کی ماں ہیں، ارشاد ربانی ہے: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الأحزاب: ۶) ”اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں“۔ اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے، جیسے اپنی ماں سے نکاح ابدی طور پر حرام ہوتا ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (الأحزاب: ۵۳) ”اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو“۔ اور جب نبی کریم

ﷺ کی ازواج مطہرات کا یہ مقام و شرف ہے تو صرف ان کے ساتھ حجاب کو خاص کرنے اور مومنین کی عورتوں کو اس حکم سے خارج کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لئے فرضیت حجاب کا حکم ہر مومن عورت کے لئے قیامت تک عام ہے اور یہی وہ مفہوم ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا اور اپنی عورتوں سے حجاب کرایا۔ تفصیل سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

پانچویں وجہ: تمام مومن عورتوں پر فرضیت حجاب کے عمومی حکم پر دلالت کرنے والے قرآن میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت حجاب والی آیت کی ابتدا اپنے اس قول سے کی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ”اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو“۔ اور یہ اجازت لینا تمام مومنین کے گھروں کے عام اسلامی ادب ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم صرف نبی کریم ﷺ کے گھروں کے ساتھ خاص ہے، مومنین کے گھر اس حکم میں داخل نہیں۔ اسی لئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر (۵۰۵/۳) میں رقمطراز ہیں: ”مومنین پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہوں، جیسے وہ اس سے پہلے اپنے گھروں میں ابتدائے اسلام میں بلا اجازت داخل ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر غیرت کھائی اور ان کو بھی یہی حکم صادر فرمایا، اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت پر بڑا اکرام ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿يَا كُفْرًا وَالِدُخُولِ عَلَى النَّسَاءِ﴾ ”تم

عورتوں پر داخل ہونے سے اجتناب کرو۔

اور جو شخص فرضیتِ حجاب کے ازواجِ النبی ﷺ کے ساتھ خاص ہونے کا قائل ہے، اس پر اس بات کا قائل ہونا لازم آئے گا کہ وہ اجازت طلب کرنے کے حکم کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ خاص مانے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

چھٹی وجہ: فرضیتِ حجاب کے عموم کا فائدہ اس کے بعد والی آیت بھی دے رہی ہے، ارشادِ باری ہے: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ ”ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے ہوں“۔ کیونکہ گناہ کی نفی عام اصل سے استثناء ہے اور وہ ہے حجاب کی فرضیت، اور تخصیصِ اصل کا دعویٰ تخصیصِ فرع کو مستلزم ہے، اور یہ دعویٰ اجماعاً غیر مسلم ہے، کیونکہ عورت کا اپنے محارم مثلاً باپ کے سامنے چہرہ و ہتھیلی کا حجاب کئے بغیر نکلنے سے گناہ کے نفی کی عمومیت سب کو معلوم ہے، البتہ غیر محرم کے سامنے نکلنے سے عورت پر اس سے حجاب کرنا ضروری ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر (۵۰۶/۳) میں رقمطراز ہیں: ”جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے حجاب کا حکم دیا تو یہ بھی بیان کر دیا کہ ان اقارب سے حجاب واجب نہیں ہے، جن کا سورہ نور کے درج ذیل فرمانِ الہی میں استثناء کر دیا ہے: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ”اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے.....“۔ اور پوری آیت چوتھی دلیل میں آرہی ہے۔ اور علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے اس آیت کو ”ضمیروں والی آیت“ کا نام دیا ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید میں اسی آیت میں سب سے

زیادہ ضمیروں کا استعمال کیا گیا ہے۔

ساتویں وجہ: فرضیتِ حجاب کے عموم کا فائدہ دینے اور تخصیص کو باطل کرنے والی دلائلوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ﴿وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سورہ احزاب آیت ۵۹ میں ارشادِ بانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ ”اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکالیا کریں“۔ اس آیت کریمہ سے مومن عورتوں پر ہمیشہ کے لئے فرضیتِ حجاب کا عام ہونا ظاہر ہو گیا۔

تیسری دلیل: فرضیتِ حجاب کی دوسری آیت جو چہرہ پر چادر لٹکانے کا حکم کرتی ہے، یہ ارشادِ الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۹) ”اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکالیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے“۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ آیت حجاب تمام عورتوں کے حق میں آئی ہے اور اس میں ان پر سر و چہرہ کو چھپانا واجب کہا گیا ہے“۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نبی کریم ﷺ کی ازواج

مطہرات اور صاحبزادیوں کا ان کے فضل و شرف کے سبب ذکر کیا ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ دوسری عورتوں کے مقابلہ میں نبی کریم ﷺ سے قرابت کے سبب ان کو حجاب کا زیادہ تاکید حکم ہے۔ ارشاد الہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶) ”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ“۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں پر اس حکم کو عام کیا۔ اور یہ آیت حجاب والی پہلی آیت کی طرح اس امر پر صریح دال ہے کہ مومنین کی تمام عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہروں، پورے جسم اور کسی زینت کو اجنبی مردوں سے چھپائیں اور پردہ کریں۔ اور وہ حجاب جلباب (لمبی چادر) سے جو چہرہ، مکمل جسم اور زینت کو ساتر ہو اور اسی حجاب سے ان کا اور ان جاہلی عورتوں سے امتیاز ہو جو مذکورہ چیزیں بے حجاب کھولے رکھتی ہیں، تاکہ وہ اذیت کی شکار نہ ہوں اور نہ کوئی ان کو لپٹائی نظروں سے دیکھے۔

اس آیت کریمہ سے اس امر پر دلیل کہ اس سے مراد چہرہ کا پردہ کرنا ہے، متعدد وجوہ سے ہے:

پہلی وجہ: آیت کریمہ میں ”جلباب“ کا وہی معنی ہے جو عربی زبان میں معروف ہے، اور وہ ہے ایسا کشادہ لباس جو پورے جسم کو چھپائے۔ اور ”جلباب“ عباءة یا ملاءة کا ہم معنی ہے، اسے عورت سر کے اوپر سے اپنے چہرہ، کپڑے، پورے جسم اور جسم کے کسی زینت پر لٹکاتے ہوئے اپنے قدموں تک دراز کرے۔ اس وضاحت سے ثابت ہوا کہ لغت و شریعت دونوں میں چہرہ کا چادر سے پردہ کرنا

جسم کے پورے اعضاء کے حجاب کرنے کی طرح فرض و واجب ہے۔

دوسری وجہ: ”جلباب“ چہرہ کے حجاب کو شامل ہے، یہی پہلا معنی مراد ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا جس عضو کو کھلا و بے حجاب رکھنے کا عام طریقہ و شیوہ تھا وہ چہرہ ہی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ چہرہ پر چادریں لٹکا کر اس کو چھپائے اور اس کا حجاب کرے، کیونکہ آیت میں لفظ ”ادناء“ کو حرف ”علی“ سے متعدی بنایا گیا ہے اور یہ لٹکانے ہی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور لٹکانا اوپر ہی سے ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہی معنی سر سے چہرہ و جسم پر لٹکانا ہے۔

تیسری وجہ: جلباب کا جو معنی و مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں نے سمجھا وہ چہرہ، پورے جسم اور کبھی زینت کپڑے وغیرہ کا چھپانا ہی ہے۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ السَّكِينَةِ وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَّةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَهَا﴾ ”جب یہ آیت نازل ہوئی کہ (اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں) تو انصار کی عورتیں نکلیں گویا وقار کی وجہ سے ان کے سروں پر کوٹا بیٹھے ہوں اور وہ اپنے اوپر کالی چادریں ڈالے ہوئے تھیں“۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، لَمَّا نَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكِ

وَبَنَاتِكَ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاعْتَجَرْنَ بِهَا فَصَلَّيْنَ خَلْفَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤْسِهِنَّ الْغُرَبَانُ ﴿﴾ ”اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر
 رحم فرمائے، جب (اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دو.....
 آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے کئے اور اس سے پردہ کیا،
 اور نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھیں گویا ان کے سروں پر کوا بیٹھے ہوں“۔ اسے
 امام ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔

نیز عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ
 الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاعْتَمَرْنَ بِهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ قدیم ہجرت کرنے
 والی عورتوں پر رحم فرمائے، جب اللہ تعالیٰ نے (اور اپنے گریبانوں پر اپنی
 اوڑھنیاں ڈالے رہیں) آیت نازل فرمائی، تو انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے
 کئے اور اس سے حجاب کیا“۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

عربی زبان میں ”اعتجار“ اور ”اختمار“ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اس
 لئے ”فاعتجرن بہا“ کا معنی ”انہوں نے اپنے چہروں کو چھپالیا“ ہے۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ﴿أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقِ وَالْحَيْضِ وَذَوَاتِ
 الْخُدُورِ، أَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
 الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:

لَتَلْبَسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جَلْبَابِهَا ﴿﴾ ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم دو شیزہ لڑکیوں، حائضہ عورتوں اور پردہ نشین زنانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نکالیں، حائضہ عورتیں نماز سے الگ رہیں اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کی بہن اسے اپنی جلباب میں ڈھانک لے۔“ (متفق علیہ)۔

یہ حدیث عورتوں کے بلا جلباب اجنبی مردوں کے سامنے نکلنے سے ممانعت کے سلسلہ میں صریح نص ہے۔

چوتھی وجہ: نص آیت میں ایسا قرینہ موجود ہے جو جلباب کے مذکورہ معنی پر دلالت کرتا ہے، نیز انصار و مہاجرین کی عورتوں کا عمل اس پر دلالت کناں ہے جو انہوں نے اپنی چادروں کو چہرہ پر ڈال کر پردہ کرنے میں جلدی کی تھی۔ اور وہ ہے اللہ کے قول: ﴿قُلْ لَا ذُؤَابِحَ﴾ میں ازواج النبی ﷺ کے حق میں حجاب اور چہرہ چھپانے کی فرضیت۔ اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں ازواج النبی ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی صاحبزادیوں اور مومنین کی عورتوں کا ذکر ہے، جو اس امر پر واضح دلیل ہے کہ تمام مومن عورتوں پر اپنے چہرہ کا چادر سے حجاب کرنا واجب و فرض ہے۔

پانچویں وجہ: یہ علت کہ: ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ ”اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی“ ”ادناء“ کی طرف راجع ہے جو ”يُؤْذَيْنَ“ سے مفہوم ہے۔ اور وہ بدرجہ اولیٰ چہرہ کے فرضیت

حجاب کا حکم ہے، کیونکہ چہرہ کا حجاب ایک عقیفہ و پاکدامن عورت کی معرفت کی علامت ہے، تاکہ اسے ستایا نہ جائے۔ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت چہرہ کے حجاب اور اس کے پردہ کرنے پر نص ہے، کیونکہ جو عورت چہرہ کا حجاب کر لے، اس کے بارے میں کوئی بدطینت لالچی اس کے باقی جسم و شرمگاہ کھولنے کی طمع نہیں کرے گا، گویا چہرہ سے حجاب ہٹا لینے ہی سے بدطینت لوگوں کی جانب سے اسے ستائے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ علت چادر سے پورے جسم و زینت کے مومن عورتوں پر حجاب فرض ہونے پر دال ہے، تاکہ اس سے ان کی عفت و شرافت کی معرفت ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ پردہ دار، باحیا اور اہل ریب و زنا سے دور عورت ہیں، تاکہ وہ خود فتنہ کی شکار نہ ہوں اور دوسرے بھی ان سے فتنہ میں نہ پڑیں، پھر وہ ستائی نہ جائیں۔

یہ سب پر عیاں ہے کہ عورت جب انتہائی پردہ دار اور اس کی مکمل پابند ہو تو اس کے بارے میں بیمار دل آدمی جرأت نہیں کرے گا اور خیانت کا رنگا ہیں اس سے دور رہیں گی۔ اس کے برعکس بناؤ سنگھار کی نمائش کرنے والی، بہت زیادہ ادھر ادھر گشت لگانے والی اور اپنے چہرہ کی دعوت نظارہ دینے والی سبھا کی پری عورت کے بارے میں ہر کسی کو غلط طبع ہونا عام بات ہے۔

یہ بات بھی معلوم ہونا چاہئے کہ چادر کا حجاب جو پاکدامن عورتوں کا حجاب ہے اور جس کے اوڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا چکا ہے، وہ اس امر کا مقتضی ہے کہ چادر سر کے اوپر سے اوڑھا جائے، کندھوں پر سے نہیں۔ نیز چادر خود زینت نہ بن

جائے اور نہ اس میں نقش و نگار اور کڑھائی و کشیدہ کاری سے اسے مزین کیا گیا ہو اور نہ ایسی جاذب نظر ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف از خود اٹھ جائیں، ورنہ شارع کا جو مقصد جسم وزینت کے حجاب اور اجنبی نگاہوں سے پردہ کرنے کا تھا، وہ بکھر کر رہ جائے گا۔

اور ایک مسلمان عورت کو مرد بننے والی عورتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے جو مردوں کے ان سے کندھا لڑانے اور فون پر عاشقانہ گفتگو سے لطف اندوز ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی ادا و حرکت سے بے حیا اور بناؤ سنگھار کی نمائش کا ر عورتوں میں اپنے شمار ہونے کا اعلان کرتی ہیں اور اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ وہ نیک و شریف، متقی و پرہیزگار، پاکدامن و پاکباز اور شمع خانہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کو عفت و عصمت اور اس کے اسباب و وسائل پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔

چوتھی دلیل: سورہ نور کی دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكَىٰ لَهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ اَبْنٰى اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿ (النور: ۳۰ تا ۳۱) ”مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
 اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ
 کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں
 نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں
 سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے
 رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے، یا
 اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا
 اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجیوں کے، یا اپنے بھانجیوں کے، یا اپنے میل جول کی
 عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا
 ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور
 سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، اے مسلمانو! تم
 سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ تم نجات پاؤ۔“

ان دونوں آیات کریمہ میں فرضیت حجاب و چہرہ کا پردہ کرنے کی دلیل چار
 مربوط وجوہ سے ہے جو حسب ذیل ہیں:

پہلی وجہ: پہلی اور دوسری آیت کے شروع میں مرد و عورت دونوں صنفوں کو

یکساں طور پر غصہ بصر (نگاہ نیچی رکھنے) اور حفظِ فرج (شرمگاہ کی حفاظت کرنے) کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف زنا جیسی فحش کاری کی سنگینی و غلاظت کی وجہ سے ہے۔ اور غصہ بصر اور حفظِ فرج دنیا و آخرت میں مومنین کے حق میں زیادہ پاکیزگی کی راہ ہے اور اس بدکاری میں ملوث ہونے سے نہایت دوری کا سبب ہے۔ اور حفظِ فرج کی تکمیل تحفظ و سلامتی کے اسباب اختیار کئے بغیر نہیں ہوتی، اور تحفظ و سلامتی کے عظیم ترین اسباب میں غصہ بصر ہے اور غصہ بصر کی تکمیل پورے جسم کے مکمل حجاب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی عقلمند آدمی اس بات میں تردد نہیں کر سکتا کہ چہرہ کو بے حجاب رکھنا ہی اس کے دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا یہی نظر ہے۔ اور وسائل کا حکم مقصد کے حکم جیسا ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ صراحت کے ساتھ حجاب کا حکم بعد والی وجہ میں آیا ہے۔

دوسری وجہ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ”اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے“۔ یعنی اپنی زینت میں سے کچھ بھی قصد و ارادہ کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو اضطراری طور پر بلا قصد و ارادہ ظاہر ہو جائے اور جس کا چھپانا امکان سے باہر ہو، مثلاً چادر کا اوپری ظاہری حصہ جسے عورت اپنی قمیص و دوپٹہ پر اوڑھتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے دیکھنے سے عورت کے جسم کا کچھ بھی حصہ دیکھنا لازم نہیں آتا، اور یہ دیکھنا معاف ہے گناہ نہیں۔

اللہ کے قول: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ میں اسرارِ تنزیل کے اس راز پر غور

کریں کہ متعدی فعل کی اسناد عورتوں کی طرف کی گئی ہے اور وہ فعل مضارع ﴿يُبْدِيْنَ﴾ ہے اور یہ اصول ہے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نہی وارد ہو تو وہ تاکید حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ اس بات پر صریح دلیل ہے کہ پورے جسم اور اس کے مصنوعی و کسبی زینت کا حجاب واجب و فرض ہے، اور چہرہ و ہتھیلی کا پردہ بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

اور ﴿اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کے استثناء میں فعل کی اسناد عورتوں کی طرف نہیں کی گئی ہے اور نہ فعل متعدی لایا گیا ہے، بلکہ فعل لازم استعمال کیا گیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مطلقاً اخفاء زینت پر مامور ہے اور وہ کچھ بھی زینت ظاہر کرنے کی مجاز نہیں ہے اور نہ اس کے لئے روا ہے کہ قصداً کچھ بھی اپنی زینت ظاہر کرے، البتہ اضطراری طور پر بلا قصد و ارادہ کچھ زینت ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ گناہ نہیں، مثلاً ہوا کے جھونکے سے زینت کا کچھ حصہ کھل جائے، یا ضرورتِ علاج کی وجہ سے کچھ حصہ کھولنا پڑے وغیرہ۔ اب اس استثناء کا معنی ”رفع حرج“ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا“۔ نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ﴾ (الانعام: ۱۱۹) ”حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے“۔

تیسری وجہ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ ”اور اپنے

گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں،۔

جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ دو جگہوں میں مسلمان عورتوں پر جسم وزینت کا حجاب فرض قرار دیا اور یہ بیان کر دیا کہ عورت قصداً اپنی زینت ظاہر نہ کرے اور اگر بلا قصد وارادہ کچھ زینت کھل جائے تو وہ معاف ہے، تو اب اس ٹکڑے سے کمال حجاب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس زینت کا اظہار حرام ہے اس میں پورا جسم داخل ہے۔ اور چونکہ قمیص کا گریبان عام طور پر کھلا ہوتا ہے جس سے گردن، سینہ اور گریبان ظاہر ہو جاتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا حجاب کرنے اور اسے چھپانے کا وجوب، نیز قمیص جس حصہ جسم کو نہ چھپائے، اس کے حجاب کی کیفیت بیان کر دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ ”اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں،۔ اور ایک چیز کو دوسری چیز پر ڈالنے کو عربی زبان میں ”ضرب“ کہتے ہیں۔ اسی معنی میں ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ﴾ (آل عمران: ۱۱۲) ”یہودیوں پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی،۔ یعنی ذلت ان پر اس طرح چھا گئی جیسے خیمہ اپنے اندر کے لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔

اور ﴿خُمُرٌ﴾ ”خِمَار“ کی جمع ہے اور یہ ”خَمْر“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چھپانے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اور اسی مفہوم میں عربی زبان میں شراب کو ”خمر“ کہتے ہیں، کیونکہ شراب بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (فتح الباری ۸/۴۸۹) میں رقمطراز ہیں: ”اسی معنی میں عورت کے دوپٹے کو ”خمار“ کہتے ہیں، کیونکہ دوپٹہ اس کے چہرہ کو چھپاتا ہے، اور ”اختمرت المرأة وتخمرت“ اس

وقت بولتے ہیں جب عورت پردہ کر لے اور اپنے چہرہ کو ڈھانک لے۔

اور ”جیوب“، ”جیب“ کی جمع ہے، اور ”جیب“ قمیص کی لمبائی میں شکاف کو کہتے ہیں۔ اب ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے کھلے رہ جانے والے حصہ پر دوپٹے کو مضبوطی کے ساتھ ڈالے۔ اور وہ سر، چہرہ، گردن، سینہ کا بالائی حصہ، اور سینہ ہے۔ اور ڈالنے کا طریقہ یہ ہو کہ عورت اپنے دوپٹے کو سر پر رکھے اور اسے بل دیکر داہنی جانب سے بائیں کندھے پر ڈالے۔ اور یہ طریقہ اس طریقہ کی مخالف صورت ہے جس پر اہل جاہلیت عامل تھے، کیونکہ دور جاہلیت کی عورت اپنے دوپٹے کو پیچھے کی طرف لٹکاتی تھی اور آگے کے حصہ کو کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ اس لئے اب مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آگے کے حصہ کو دوپٹے سے ڈھانکیں، چھپائیں اور پردہ کریں۔

اور اس تفسیر کو سیاق و سباق سے جوڑیں اور پھر عربی لغت کی تائید اس کے ساتھ ملائیں، تو دونوں اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہی وہ معنی و مفہوم ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں نے سمجھا اور اس کی پابندی کی، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں: باب ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ اور اپنی سند سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی، انہوں نے کہا: ﴿يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ مَرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ قدیم ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم کرے، جب

اللہ نے ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ آیت نازل فرمائی، تو انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے کئے اور اس سے چہرہ کا پردہ کیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح (فتح الباری ۸/۴۸۹) میں رقمطراز ہیں: ﴿فَاخْتَمَرْنَ بِهَا﴾ یعنی انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کیا۔ اور پھر وہی صورت بیان کی جو سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

اور جو شخص اس کے برخلاف چہرہ کھولنے کی بات کرے اور دلیل یہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چہرہ کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سر، گردن، سینہ، گریبان، بازو، ذراع اور ہتھیلی کا بھی ذکر نہیں کیا ہے، تو کیا ان اعضاء کا کھولنا جائز ہے؟ اگر وہ کہے کہ: نہیں! تو ہم کہیں گے کہ: اسی طرح چہرہ کا کھولنا بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہے، کیونکہ چہرہ ہی اصل حسن اور فتنہ کی جگہ ہے، اور یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ شریعت سر، گردن، سینہ کا بالائی حصہ، سینہ، ذراع اور قدم تو چھپانے کا حکم دے اور چہرہ کے حجاب و پردہ کرنے کا حکم نہ دے؟ جبکہ چہرہ ہی شدید فتنہ کا باعث ہے اور ناظر و منظور دونوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ نیز تمہارا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں کے فہم کے بارے میں آخر کیا جواب ہوگا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے چہروں کا حجاب کرنے میں جلدی کی تھی۔

چوتھی وجہ: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ”اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ

زینت معلوم ہو جائے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے اخفاء زینت کا حکم دیا اور اوڑھنی سے حجاب کرنے اور اسے چہرہ و سینہ پر ڈالنے کی کیفیت ذکر کی، تو اللہ تعالیٰ نے کمال حجاب اور فتنہ کے محرکات کے دفاع کے لئے مومن عورتوں کو پیر پٹک کر چلنے سے منع کر دیا، تاکہ ان کے زیور پازیب وغیرہ آواز نہ کرے اور پھر دوسروں کو ان کی زینت کا علم ہو جائے اور فتنہ کا سبب بن جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔

اس وجہ میں تین طرح کی دلائل ہیں:

پہلی دلالت: مومن عورتوں پر پیر پٹک کر چلنا حرام ہے کہ جس سے دوسروں کو ان کی زینت کا علم ہو جائے۔

دوسری دلالت: مومن عورتوں پر اپنے پیرو زینت کا حجاب واجب ہے اور ان چیزوں کا کھولنا جائز نہیں۔

تیسری دلالت: اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں پر ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جو فتنہ کا محرک و باعث ہو۔ اس لئے بدرجہ اولیٰ عورت کی بے حجابی اور اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ بے پردہ کرنا حرام ہوگا، کیونکہ چہرہ سے حجاب اٹھانا فتنہ بھڑکانے اور مشتعل کرنے کا سب سے قوی محرک ہے۔ اس لئے چہرہ حجاب کئے جانے، چھپانے اور اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کئے جانے کا زیادہ مستحق ہے اور اس معاملہ میں کوئی خردمند آدمی شک نہیں کر سکتا۔

اب ذرا غور کریں کہ اس آیت نے کس طرح سر سے لیکر پیر تک اجنبی مردوں

سے حجاب کرنے اور فتنہ کے خوف سے جسم وزینت میں سے کچھ بھی کھولنے کا قصد کرنے کے اسباب و ذرائع کے سدباب کے عمل کو شامل کیا ہوا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں کامل و محکم شریعت سے نوازا۔

پانچویں دلیل: سن رسیدہ بوڑھی عورت کو حجاب ہٹانے کی رخصت، مگر حجاب کرنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، چنانچہ ارشادِ باری ہے: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۰) ”اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو رخصت دی جو اتنی سن رسیدہ ہو چکی ہوں کہ وہ حیض و حمل سے ازکار رفتہ اور اولاد کی امید سے مایوس ہو چکی ہوں کہ اپنے ظاہری کپڑے: چادر، اوڑھنی اور دوپٹہ اتار رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے حجاب والی آیت میں مومن عورتوں پر فرض بیان کیا ہے، اور اپنے چہرہ و ہتھیلی کو کھلے چھوڑ دیں۔ لیکن دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں سے گناہ اٹھایا ہے:-

پہلی شرط: وہ اس عمر کی عورت ہو کہ جس میں حسن وزینت باقی نہ رہ گئی ہو، اور نہ وہ خود شہوت کی محل رہ گئی ہو اور نہ اس میں نکاح کی خواہش باقی ہو، چنانچہ وہ

نکاح کی طمع رکھتی ہے اور نہ لوگ اس کے بارے میں نکاح کی طمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی رسیدہ اور بوڑھی ہو چکی ہے کہ نہ شہوت جنسی رکھتی ہے، نہ لوگ اس میں جنسی شہوت کی خواہش رکھتے ہیں۔ البتہ جس عورت میں کچھ بھی حسن و جمال باقی ہو اور وہ شہوت کی محل بن سکتی ہو، تو پھر اس کے لئے چادر اتار رکھنا جائز نہیں ہے۔

دوسری شرط: وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اور یہ بات دو امور سے ہوتی ہے:

۱۔ چادر اتار رکھنے کا مقصد بناؤ سنگھار کی نمائش نہ ہو، بلکہ بوقت حاجت و ضرورت فقط تخفیف مقصد ہو۔

۲۔ وہ زینت یعنی زیور، سرمہ، رنگ و پالش اور ظاہری کپڑے سے حسن و جمال کی نمائش کرنے والی نہ ہو کہ جس سے فتنہ پیدا ہو۔

اس لئے ایک مومن عورت کو اس اجازت و رخصت پر عمل کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہئے کہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، جبکہ واقعاً وہ بوڑھی نہیں ہے، اور وہ اس عمر میں بھی کسی بھی نوع کی زینت میں خوب سچ دھج کر اور بن سنور کر نکلے۔

پھر ہمارے رب نے فرمایا: ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ ”اور اگر وہ اس سے بھی حیا داری برتیں تو ان کے لئے بہتر ہے“۔ اس سے ایک بوڑھی عورت کو حیا داری کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہی ان کے لئے افضل و بہتر ہے، گرچہ اس سے زینت کی نمائش نہ ہوتی ہو۔

یہ آیت کریمہ مومن عورتوں پر چہرہ و پورے جسم وزینت کے حجاب کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ اجازت ان بوڑھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن پر سے گناہ اٹھالیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ سن رسیدگی اور سن یاس کی اس حد کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کے حق میں تہمت رفع ہوگئی ہے۔ اور یاد رکھیں رخصت عزیمت کے بعد ہی ہوتی ہے اور سابقہ آیات کریمہ میں حجاب کی فرضیت عزیمت ہی ہے۔

اور اس دلیل سے کہ بوڑھی عورت کا حجاب اختیار کرنا، اس کے چہرہ و ہتھیلی سے کپڑے اتار رکھنے کی رخصت سے افضل ہے، یہ حجاب اس عورت کے حق میں جو ابھی سن رسیدگی کی عمر کو نہ پہنچی ہو واجب و فرض ٹھہرتا ہے، اور یہی عورتوں کے حق میں افضل اور ان کے فتنہ و بدکاری میں ملوث ہونے سے زیادہ دوری کا سبب ہے، اگر وہ نہ مانیں اور اسی پر اصرار کریں تو ان پر اثم و گناہ ضرور ہوگا۔

لہذا یہ آیت کریمہ چادر و اوڑھنی سے چہرہ، ہتھیلی اور پورے جسم وزینت کے مکمل حجاب کی فرضیت پر نہایت قوی دلیل ہے۔

ثانیاً: سنت مطہرہ سے دلائل:

بہت ساری احادیث پاک میں متعدد طریقوں سے سنت مطہرہ کے مختلف دلائل کبھی چہرہ کو چھپانے اور اس کا حجاب کرنے کی تصریح کے ساتھ، اور کبھی بلا چادر اوڑھے گھر سے باہر نہ نکلنے کی صراحت کے ساتھ، اور کبھی قدموں کو چھپانے اور چھپانے کی غرض سے کپڑا اٹکانے کے حکم کے ساتھ، اور کبھی عورت ستر کی چیز ہے اور ستر کی چیز کا حجاب کرنا واجب ہے، کے ساتھ، اور کبھی خلوت اور عورتوں پر دخول کی

حرمت کے ساتھ، اور کبھی پیغام نکاح دینے کے لئے اپنی منگیترا کو دیکھ لینے کی رخصت کے ساتھ آئے ہیں، اور اس طرح سنت مطہرہ کے بہت پہلو ایسے ہیں جو عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں اور عفت و عصمت، شرم و حیا اور غیرت و حمیت کی حالت میں ان کی حفاظت و صیانت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سنت نبوی کے چند موتی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں:

۱۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا: ﴿كَانَ الرَّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهُمَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ﴾ ”سوار لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حالت احرام میں تھیں، تو جب وہ ہمارے بالکل مقابل آجاتے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر سر سے چہرہ پر لٹکا لیتی تھی، پھر جب وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے تھے، تو ہم چہرہ کھول لیتی تھیں“۔ اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ احرام باندھنے والی صحابیہ عورتوں کے سلسلہ میں دو متضاد واجبات کے بارے میں بیان ہے۔ پہلا واجب مومن عورت پر چہرہ کا حجاب کرنا ہے۔ دوسرا واجب احرام والی عورت پر چہرہ کو کھلا رکھنا ہے۔ جب احرام والی عورت اجنبی مردوں کے مقابل ہوتی، تو اصل پر عمل کرتی، اور وہ حجاب کی فرضیت ہے، اور اپنے چہرہ کا پردہ کر لیتی۔

اور جب اجنبی مردوں کے سامنے نہ ہوتی تو چہرہ کو کھلا رکھتی، جو حالتِ احرام میں واجب ہے۔ اور یہ بجز اللہ تمام مومن عورتوں پر فرضیتِ حجاب کی واضح دلیل ہے۔ اور فرضیتِ حجاب کے عموم پر بحث سورہ احزاب کی آیت (۵۳) کی تفسیر کے ضمن میں گزر چکی ہے اور اس کی تائید درج ذیل حدیث پاک کرتی ہے:

۲۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ﴾
 ”ہم مردوں سے اپنے چہرہ کا پردہ کرتی تھیں، جبکہ اس سے پہلے ہم حالتِ احرام میں چہرہ کھولے رکھتی تھیں“۔ اسے امام ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ: یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

۳۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا﴾ (”اللہ تعالیٰ قدیم ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرمائے، جب ”اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں“ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے کئے اور اس سے چہرہ کا پردہ کیا“۔ اسے امام بخاری، ابوداؤد، ابن جریر نے تفسیر میں اور حاکم و بیہقی نے روایت کیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (فتح الباری ۸/۳۹۰) میں رقمطراز ہیں: ”فاختمرن

”بھا“ کا معنی ”انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کر لیا“ ہے۔

اور ہمارے شیخ محمد امین (اضواء البیان ۶/۵۹۴-۵۹۵) میں رقمطراز ہیں:

”یہ صحیح حدیث اس امر پر صریح دلیل ہے کہ صحابیہ عورتوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ اس امر کا مقتضی ہے کہ چہرہ کا حجاب کیا جائے، اس لئے انہوں نے اپنی چادروں کے ٹکڑے کئے اور اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں اپنے چہروں کا حجاب کیا۔ اس سے ایک انصاف پسند آدمی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ عورت کا مردوں سے حجاب کرنا اور اپنے چہرہ کو چھپانا سنت صحیحہ سے ثابت ہے جو کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان مہاجر عورتوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے کتاب اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرنے میں جلدی کی۔ اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ انہوں نے ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ سے چہرہ کے حجاب کرنے کا مفہوم نبی کریم ﷺ ہی سے سمجھا، کیونکہ آپ ﷺ ان کے درمیان موجود تھے اور عورتیں اپنے دینی مشکل مسائل آپ سے دریافت کر لیتی تھیں۔ نیز جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (”یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں“، اس لئے یہ ممکن نہیں کہ صحابیہ عورتیں اپنی طرف سے اس آیت کا معنی و مفہوم متعین کر لیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ: ابن ابی حاتم کی عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن صفیہ کے طریق سے ایک روایت ہے جو اس

کی وضاحت کرتی ہے اور جس کے الفاظ یہ ہیں: ﴿ذَكَرْنَا عِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضَلَهُنَّ فَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ لَفُضِّلْنَ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصَدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ، لَقَدْ أَنْزِلْتُ سُورَةَ النُّورِ ” وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ“ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ فِيهَا، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطَهِهَا فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْعُرْبَانَ﴾ ”ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے قریشی عورتوں کی فضیلت کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا: یقیناً قریش کی عورتیں فضیلت والی ہیں، لیکن میں نے انصاری عورتوں سے زیادہ فضیلت والی نہ کتاب اللہ کی تصدیق کرنے میں کسی کو دیکھا اور نہ تنزیل قرآن پر ایمان لانے میں، سوہ نور میں ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ آیت نازل ہوئی اور ان کے شوہر اس کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے پاس گئے، تو ان میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو اپنی چادر کی طرف نہ اٹھی ہو، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے آئیں تو چہرہ کو اوڑھنی سے چھپائے ہوئی تھیں، گویا ان کے سروں پر کوٹا بیٹھے ہوں۔“۔ بخاری شریف کی مذکورہ روایت میں بھی اس کی وضاحت آچکی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی ذی علم و فہم اور تقویٰ کے عظیم مرتبہ پر فائز عورت انصاری عورتوں کی کیا خوب تعریف کر رہی ہیں اور ان کے بارے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ان سے زیادہ کتاب اللہ کی تصدیق اور تنزیل قرآن پر ایمان لانے والی

کسی کو نہیں دیکھا، جو اس امر پر واضح دلیل ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ سے چہرہ چھپانے کی فرضیت کا یہ فہم و ادراک ان کی کتاب اللہ کی تصدیق اور تنزیل قرآن پر ایمان میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس سلسلہ میں صریح دلیل ہے کہ مردوں سے عورتوں کا حجاب اور چہرہ کا پردہ کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور تنزیل قرآن پر ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پس تعجب در تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اہل علم کی طرف اپنی نسبت جوڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں کہیں پر ایسی بات نہیں آئی ہے جو اجنبی مردوں سے عورت کے چہرہ چھپانے پر دلالت کرتی ہو، حالانکہ ان صحابیہ عورتوں نے کتاب اللہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت اور تنزیل قرآن پر ایمان لاتے ہوئے مذکورہ عمل اپنایا تھا، اور یہی معنی صحیح حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں گزر چکا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام مسلمان عورتوں پر حجاب کے وجوب و فرضیت کے سلسلہ میں سب سے صریح اور سب سے عظیم دلیل ہے۔

۴۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان والے واقعہ میں ان سے مروی یہ حدیث ملاحظہ ہو کہ: ﴿وَكَانَ . صَفْوَانٌ . يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَرْتُ وَجْهِي عَنْهُ بِجِلْبَابِي﴾ ”صفوان رضی اللہ عنہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے مجھ کو دیکھا تھا، انہوں نے مجھ کو پہچان لیا اور میں ان کے ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنے سے بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے ان سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔“ (بخاری و مسلم)۔ اور سورہ

احزاب کی آیت (۵۳) کی تفسیر میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ امہات المؤمنین اور تمام مومن عورتوں پر حجاب فرض ہے۔

۵۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے رضاعی چچا کے ساتھ والا واقعہ، انہی کی زبانی مروی ہے کہ ان کا رضاعی چچا ابو القعیس کے برادر ارح فلح نام کے تھے اور وہ: ﴿لَمَّا جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ نَزُولِ الْحِجَابِ، فَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ حَتَّىٰ أُذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، لِأَنَّهُ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ ”جب نزولِ حجاب کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لئے اجازت لینے آئے، تو انہوں نے انہیں اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو اجازت دی، کیونکہ ارح فلح عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا تھے“۔ (متفق علیہ)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (فتح الباری ۱۵۲/۹) میں لکھتے ہیں: ”اس حدیث سے عورت کے اجنبی مردوں سے حجاب کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے“۔ اور یہ تمام مسلمان عورتوں پر حجاب کے عام فرض ہونے کے سلسلہ میں حافظ موصوف کا اختیار کردہ مسلک ہے اور یہی حق ہے۔

۶۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ: ﴿كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ﴾ ”مومن عورتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز میں اپنی چادروں میں لپیٹی حاضر ہوتی تھیں، پھر وہ نماز پوری کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھیں اور

انہیں صبح کی تاریکی میں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا،۔ (متفق علیہ)۔

۷۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ، قُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا﴾
”جب نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو نکال کر عید گاہ لے جانے کا حکم فرمایا تو عورتوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کی بہن اسے اپنی چادر پہنادے،۔ (متفق علیہ)۔

اس حدیث کی دلالت حجاب پر بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے لئے گھر سے باہر نکلنا پورے جسم کو چھپانے والی چادر سے بلا حجاب کئے، جائز نہیں، اور یہی دور نبوی ﷺ میں عورتوں کا طریقہ عمل تھا۔

۸۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَضَعُ النِّسَاءُ بُدْيُوهِنَّ؟ قَالَ يُرْخِضْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشَفُ أَفْدَامُهُنَّ، قَالَ: يُرْخِضُهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدَنَّ عَلَيْهِ﴾ ”جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ گھسیٹے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: پھر عورتیں اپنے دامن کے ساتھ کیسے کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک بالشت نیچے لٹکالیں، ام سلمہ نے کہا: تب تو عورتوں کے قدم کھلے رہ جائیں گے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ایک ہاتھ نیچے لٹکالیں اور اس سے زیادہ نہ کریں،‘۔ اسے امام احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اس حدیث سے استدلال کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: عورت اپنے سر سے پیر تک ایک اجنبی مرد کے حق میں پردہ کی چیز ہے، اس دلیل سے کہ نبی کریم ﷺ نے قدموں تک کے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر کپڑا اوچا درگھیننے کی حرمت سے عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

دوسری صورت: پورے جسم کے فرضیتِ حجاب پر اس حدیث کی دلالت بطور قیاس اولیٰ کے ہے، کیونکہ قدموں کے مقابلہ میں چہرہ کے اندر فتنہ سامانی کہیں زیادہ ہے۔ اس لئے چہرہ کا حجاب قدموں کے چھپانے کے مقابلہ میں زیادہ ضروری و واجب ہے اور اللہ حکیم وخبیر کی حکمت بالغہ یقیناً اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ادنیٰ کو چھپانے کا تو حکم دیا جائے اور جس سے شدید ترین فتنہ پیدا ہو، اسے بے حجاب کھلا چھوڑ دیا جائے؟

۹۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا﴾

”عورت ستر کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان صفت آدمی کھٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ اور عورت اپنے رب کی رحمت سے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں ہوتی ہے“۔ اسے امام ترمذی، ابن

حبان اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی وجہ دلالت یہ ہے کہ جب عورت ستر و پردہ کی چیز ہے تو ہر اس چیز کو چھپانا و پردہ کرنا واجب ہے جس پر ”پردہ کی چیز“ کا معنی صادق آتا ہے۔ اور بروایت ابو طالب امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ”عورت کا ناخن بھی پردہ کی چیز ہے، اس لئے جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم کا کچھ بھی حصہ کھلا نہ چھوڑے، یہاں تک کہ اپنے موزہ کو بھی ظاہر نہ کرے“۔ نیز امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ: ”عورت کے جسم کا ہر حصہ پردہ کی چیز ہے، یہاں تک کہ اس کا ناخن بھی“۔ اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ: ”یہی امام مالک کا بھی قول ہے“۔

۱۰۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمَمَ؟ قَالَ: أَلْحَمَمُ الْمَوْتُ﴾ ”تم عورتوں پر داخل ہونے سے اجتناب کرو، ایک انصاری آدمی نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! عورت کے دیور کے سلسلہ میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دیور موت ہے“۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

یہ حدیث پاک فرضیتِ حجاب پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں پر داخل ہونے سے خوف دلایا اور عورت کے شوہر کے قریبی رشتہ دار کو موت سے تشبیہ دی، اور کیا ڈرانے کا اس سے بھی سخت لہجہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور

جب مردوں کو عورتوں پر دخول سے منع کر دیا گیا تو ان کے ساتھ خلوت بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تو ان سے کسی چیز کا سوال صرف پردہ کے آڑ ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور جو عورتوں پر داخل ہو گیا اس نے حجاب کی دھجی اڑادی۔ اور یہ تمام عورتوں کے حق میں عام حکم ہے، اس لئے یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ”جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردہ کے پیچھے سے طلب کرو“، کی طرح تمام عورتوں کے حق میں عام حکم ٹھہرا۔

۱۱۔ پیغام نکاح دینے والے کے لئے اپنی مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت والی

احادیث پاک:

خاطب کے لئے مخطوبہ کو دیکھنے والی احادیث بہت ساری ہیں، جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک معتد بہ جماعت نے روایت کیا ہے، جن میں ابو ہریرہ، جابر، مغیرہ، محمد بن مسلمہ اور ابو حمید رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ہم یہاں پر جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ﴾ ”جب تم میں کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، تو اگر اس کے امکان میں یہ بات ہو کہ عورت میں وہ، وہ بات دیکھے جو اس کے لئے اس کے ساتھ نکاح کا داعیہ پیدا کر دے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہئے“۔ چنانچہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا، تو میں اس کو دیکھنے کے لئے چھپتا پھرتا تھا،

یہاں تک کہ میں نے اس لڑکی کے اندر وہ بات دیکھ لی جو میرے اس سے نکاح کا باعث بنی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔“ اسے امام احمد، ابوداؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

اس حدیث کی دلالت متعدد وجوہ سے واضح ہے:

۱۔ اصل عورتوں کا اجنبی مردوں سے حجاب و پردہ کرنا ہے۔

۲۔ خابط کے لئے مخطوبہ کو دیکھنے کی رخصت، عزیمت کے وجود کی دلیل ہے اور وہ عزیمت حجاب ہے۔ اگر عورت بے نقاب ہو تو اسے دیکھنے کی رخصت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔

۳۔ خابط۔ جابر رضی اللہ عنہ۔ کا اس لڑکی کو دیکھنے کے لئے چھتے پھرنے کا تکلف، تاکہ وہ اس میں وہ بات دیکھ لے جو اس کے لئے اس سے نکاح کا محرک ہو۔ اگر عورت بے نقاب و بے پردہ گھومنے پھرنے والی ہو تو خابط کو دیکھنے کے لئے چھتے پھرنے کے تکلف کی حاجت نہ پڑے۔ واللہ اعلم۔

شیخ احمد شاہ رحمہ اللہ (مسند احمد کی تحقیق ۱۴/۲۳۶) مخطوبہ کو دیکھنے کے سلسلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ضمن میں رقمطراز ہیں: ”اس حدیث اور اس مفہوم کی مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت والی دیگر احادیث کو بنیاد بنا کر اس دور کے ملحدین، فجار، یورپ کے غلام، عورتوں کے بندے اور شہوتوں کے اسیروں نے ایک قسم کا کھلوٹا شروع کر رکھا ہے، ان احادیث مبارکہ سے بے موقع و محل حجت پکڑتے ہیں اور ان کے صحیح اسلامی مفہوم سے تجاوز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مخطوبہ پر

ایک سرسری نگاہ ڈالے، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کافر و فاجر لوگ کامل گہری نگاہ کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ایسی نظر کے جواز کے قائل ہیں کہ عورت کا اتنا حصہ دیکھنا بہر صورت جائز نہیں، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے حرام خلوت پر اتر آئے ہیں، بلکہ بے غیرتی کی آخری حدیاری و دوستی اور ایک ساتھ رہن سہن کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے۔ اللہ ان کا اور ان کی عورتوں کا بیڑا غرق کرے، نیز ان کا بھی جو ان جیسی حرام چیزوں پر رضامند ہیں۔ اور اس سلسلہ میں سخت گنہگار تو وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ اسلام ان سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عافیت میں رکھے اور سیدھی راہ کی ہدایت دے۔‘

ثالثاً: عام قیاسِ جلی:

جس طرح آیات و احادیث مومن عورتوں پر فرضیتِ حجاب پر دلالت کرتی ہیں، جس میں چہرہ و ہتھیلی بھی پورے جسم و زینت کو حجاب کرنے کی طرح شامل ہیں، نیز بے پردگی کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی ظاہر کرنے کی حرمت پر دلالت کتناں ہیں، اسی طرح یہ نصوص عام قیاس کی دلیل سے پورے جسم و زینت کے حجاب کے ساتھ چہرہ و ہتھیلی کے حجاب کے وجوب پر بھی دلالت کرتے ہیں، تاکہ شریعتِ مطہرہ کے ان قواعد کی پابندی اور ان پر عمل ہو، جن کا مقصد عورتوں کے حق میں فتنہ کے دروازوں کو بند کر دینا ہے کہ نہ وہ خود فتنہ میں پڑ جائیں، یا دوسرے ان سے فتنہ میں مبتلا ہوں، اور جن کا ہدف مقاصدِ عالیہ کی تحصیل اور اخلاقِ فاضلہ کی حفاظت ہے۔

مثلاً عفت و عصمت، طہارت و پاکیزگی، شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا تحفظ، نیز اخلاقِ سافلہ مثلاً فحاشی و بے حیائی، غیرت و حمیت کی موت، شہد اپن، عریانیت، بے پردگی اور اختلاطِ مردوزن کا دفاع ہے۔ جیسا کہ قاعدہ ﴿جلبِ مصالح و درءِ مفاسد﴾ (مصالح کی تحصیل اور مفاسد کا دفاع) اور ﴿دو مفسدوں میں بڑے مفسدہ کے دفاع میں کمتر مفسدہ کو اپنانا﴾ اور ﴿مباح کو ترک کرنا جب دین میں مفسدہ تک نہ ہو﴾ وغیرہ قواعد میں ہے۔ اور ان عام جلی قیاسوں میں:

۱۔ غضبِ بصر اور حفظِ فرج کا حکم، اور چہرہ کو بے حجاب کرنا، اس کے دیکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کا عظیم محرک و باعث ہے۔

۲۔ پیر پکنے کی ممانعت و نہی، اور چہرہ کو بے نقاب کرنا اس سے بھی شدید ترین فتنہ کا داعی ہے۔

۳۔ نرم و شیریں لہجہ میں گفتگو سے ممانعت، اور چہرہ کی بے نقابی اس سے بھی بڑے فتنہ کا سبب ہے۔

۴۔ نص و اجماع سے قدم، ہاتھ، گردن اور سر کے بال کے حجاب کا حکم، اور چہرہ کی بے حجابی اس سے بھی بڑے فتنہ و فساد کا باعث ہے۔

ان کے علاوہ بھی دیگر قیاسات ہیں جو سابقہ تفصیل سے معلوم کئے جاسکتے ہیں، چنانچہ چہرہ و ہاتھ کا حجاب اور انہیں بے نقاب نہ کرنا بدرجہ اولیٰ قیاس ہے جس کو ”قیاسِ جلی“ کہتے ہیں اور یہ بالکل واضح ہے، کوئی بھی عیب چیں اس میں کیڑے نہیں نکال سکتا۔ واللہ الحمد۔

خلاصہ و تنبیہ: سابقہ تفصیلات سے ہر اس شخص کو علم ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے کہ مومن عورتوں پر پورے جسم و کسبی زینت کا حجاب وحی معصوم: قرآن و سنت، قیاس صحیح اور عام شرعی قواعد کے راجح اعتبار کے دلائل سے فرض ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کے مقتضی پر عمل نبی کریم ﷺ کے دور مبارک سے لے کر آج تک نہ صرف جزیرۃ العرب میں بلکہ ممالک اسلامیہ میں جاری و ساری ہے۔ اور آج جو تمام عالم اسلام میں چہرہ کی بے حجابی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ اس بات کی شروعات ہے جو اکثر بدن اور پوری زینت کی بے پردگی، بے حیائی، عریانیت و آوارگی اور تبرج، شکست و ریخت کی حد تک داخل ہو گئی ہے جسے دور حاضر میں ”سفور“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جدید فتنہ و مصیبت چند عرب مسیحیوں، مغرب پرست مسلمانوں اور اسلام سے مرتد ہو کر نصرانیت قبول کرنے والوں کے ہاتھوں چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں آئی ہے، تفصیل دوسری فصل میں آرہی ہے۔

لہذا ان مسلمانوں پر واجب و فرض ہے جن کی عورتوں کو اس بے حجابی و بے پردگی اور بے حیائی و عریانیت کی کچھ ہوا لگ چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور اپنی عورتوں کو چادر، اوڑھنی اور دوپٹہ سے حجاب کرائیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ان کو حجاب پر استقامت اور بے حجابی و بے پردگی سے واپس لانے کے لئے ضروری اسباب و وسائل اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اولیاء و سرپرستوں پر ان کی قوامیت و حاکمیت فرض کی گئی ہے، جس کی بنیاد اسلامی غیرت

اور دینی حمیت ہے۔ اور خود مسلمان عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور امہات المؤمنین اور متقی مسلمان عورتوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے چادر، اوڑھنی اور دوپٹہ سے حجاب والے شیوہ و طریقہ کو قبول کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں و بندویوں کا ولی و دوست ہے۔

ایک انتباہ و تحذیر: اس دین پر ایمان والے ہر مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے اندر و باہر کے دشمنوں کی دعوتوں اور پرفریب نعروں سے انتہائی حد تک چوکنار ہے، جن کا مقصد مغربی تہذیب کی تقلید کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تاکہ مومن عورتوں کو ان کی عفت و عصمت کے تاج ﴿حجاب و پردہ﴾ سے نکال کر بے حیائی و بے پردگی اور عریانیت اور اجنبی مردوں کی گود میں ڈال دے، نیز مسلمان ان شاذ اقوال سے دھوکہ نہ کھائیں جو نصوص میں کتر بیونت کرتے ہیں، اصول کو منہدم کرتے ہیں اور مقاصد شرعیہ عفت و عصمت کی طلب و تحفظ کو پس پشت ڈالتے ہیں اور تبرج و سفور اور اختلاط سے نفور و دوری کو روکتے ہیں اور جوان قائلین شذوذ کے ممالک میں داخل ہو چکے ہیں۔

اور ہر ایمان والے مرد و عورت سے ہماری گزارش ہے اور جیسا کہ شریعت مطہرہ سے معلوم ہے اور جس پر علماء محققین قائم ہیں کہ تبرج و سفور کے داعیوں کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے اور نہ نبی کریم ﷺ کے دور مبارک سے لے کر چودھویں صدی ہجری کے اوائل تک، جب مسلمانوں میں بے حجابی کا فتنہ اٹھا، کوئی متواتر جاری عمل ہے۔ اور چہرہ و ہتھیلی کی بے حجابی کے داعی جن چیزوں سے

استدلال کرتے ہیں وہ تین حالوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہیں:

۱۔ وہ صحیح و صریح دلیل ہے، مگر وہ آیات فرضیتِ حجاب سے منسوخ ہے۔
جیسا کہ واقعات کی تحقیق کرنے والوں سے مخفی نہیں۔ یعنی وہ سن پانچ ہجری (۶۰۵ھ) سے قبل کے واقعات ہیں، یا وہ سن رسیدہ بوڑھی عورتوں کے حق میں ہے، یا ان بچوں کے سلسلہ میں ہے جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ناواقف ہیں۔
۲۔ وہ صحیح دلیل ہے، مگر غیر صریح ہے۔ جس کی دلالت کتاب و سنت کی قطعی دلائل کے سامنے جو پورے جسم و زینت کے حجاب کے علاوہ چہرہ و ہتھیلی کے حجاب پر بھی دلالت کرتے ہیں، کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا علماءِ راہین و محققین کا طریقہ و شیوہ ہے۔

۳۔ وہ صریح دلیل ہے، مگر صحیح نہیں ہے۔ اس سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس درجہ کی دلیل سے ان صحیح و صریح نصوص اور جاری و ساری متواتر عمل سنت کا مقابلہ کیا جائے جو عورتوں کے پورے جسم و زینت کے علاوہ چہرہ و ہتھیلی کے حجاب کے وجوب و فرضیت پر دلالت کرتے ہیں۔

اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ پورے اسلامی تاریخ میں کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وجودِ فتنہ، ضعفِ دین اور فسادِ زمانہ کے وقت چہرہ و ہاتھوں کو بے حجاب کرنا جائز ہے، بلکہ فتنہ و فساد کے وجود کے وقت چہرہ و ہتھیلی کے حجاب کرنے پر ساری امت اسلامیہ کا اجماع ہے، جیسا کہ متعدد معتبر علماء نے اس اجماع کو نقل و بیان کیا ہے۔

اور آج کے دور حاضر میں فتنہ و فساد کی یہ صورت حال برقرار ہے جو چہرہ و ہاتھ

کے حجاب کرنے کا، اگر دوسرے دلائل نہ بھی ہوں، خود موجب ہے۔
 اور یہ ایک بدترین علمی خیانت اور نفی دھاندلی ہے کہ چہرہ و ہاتھ کھولنے کے
 جواز کے قائلین کی طرف اس بات کی مطلقاً نسبت کی جائے اور فتنہ و فساد کی قید کی
 طرف اشارہ تک نہ کیا جائے، تاکہ دورِ حاضر میں عورتوں کے چہرہ کو بے حجاب
 کرنے کی دعوت کو تقویت دی جائے۔ جبکہ ضعفِ دین اور فتنہ و فساد کا وہ مشاہدہ کیا
 جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ! اور جس نے مسلمان ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
 حقیقت میں عورت کا اپنے پورے جسم و کبھی و مصنوعی زینت کا حجاب و پردہ
 فرض ہے اور کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے جسم و زینت میں سے کچھ بھی قصد و ارادہ
 کے ساتھ ظاہر کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور یہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ
 کے حکم کی اطاعت ہے، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں اور پورے
 اسلامی تاریخ کے طویل ترین ادوار میں مسلمان عورتوں کے جاری و ساری
 متواتر عمل کی سنت ہے۔ فالحمد للہ رب العالمین۔

چوتھا مسئلہ: حجاب کے فضائل و محاسن:

اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ان پر اجنبی مردوں سے اس حجاب کو فرض کر کے
 جو ان کے پورے جسم و زینت کے لئے ساتر ہو، اطاعت کی دعوت دی ہے، جس کی
 تعمیل پر انہیں ثواب سے نوازا جائے گا اور ترک پر عقاب دیا جائے گا۔ اس لئے
 حجاب کی پامالی و بے حرمتی تباہ کن کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور جو دوسرے
 کبائر کے ارتکاب تک لے جانے والی بھی ہے، مثلاً جسم کا بعض حصہ قصداً ظاہر کرنا،

اور کبھی و مصنوعی زینت کا کچھ حصہ نمائش کرنا، اختلاط مردوزن، غیروں کے لئے فتنہ وغیرہ جیسے حجاب کی پامالی کے مضرات و آفات ہیں۔

اس لئے مومن عورتوں پر اللہ ورسول کی اطاعت میں ہر اس چیز کے التزام کو تسلیم و قبول کرنا واجب و فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجاب، پردہ، عفت و عصمت اور شرم و حیا فرض کیا ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶) ”اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔“

اور حجاب کیوں ضروری نہ ہو؟ جبکہ اس کی فرضیت کے پیچھے بڑے بڑے اسرار و حکم، فضائلِ محمودہ اور عظیم اغراض و مقاصد ہیں جن میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

۱۔ عزت و آبرو کا تحفظ: حجاب عفت و عصمت کی حفاظت اور شکوک و شبہات اور فتنہ و فساد کے اسباب کے دفاع کی شرعی حفاظت و نگرانی ہے۔

۲۔ قلوب کی طہارت و پاکیزگی: حجاب مومن مرد و عورت کے قلوب کی طہارت و پاکیزگی، تقویٰ کے ساتھ اس کی نشوونما اور حرمتوں کی تعظیم و تکریم کا بہت بڑا محرک و داعی ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

”تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے کامل پاکیزگی یہی ہے“۔

۳۔ مکارمِ اخلاق: حجابِ مکارمِ اخلاق مثلاً عفت و عصمت، شرم و حیا اور غیرت و حمیت کو اپنے لئے محفوظ رکھنے کا محرک و داعی ہے۔ اس کے برعکس مساویٰ اخلاق جیسے عیب دار باتوں کا ارتکاب، چھپھور و شہد اپن، بے حیائی و آوارگی، خست و کمینگی اور فتنہ و فساد سے پردہ و حجاب کا سبب ہے۔

۴۔ پاکدامن عورتوں کی علامت و شناخت: حجابِ آزاد و پاکدامن عورتوں کی عفت و عصمت، شرافت و کرامت اور شکوک و شبہات کی غلاظت سے دوری کی شرعی علامت و شناخت ہے۔ ﴿ذَلِكَ اٰذْنٰی اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ﴾ ”اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر ستائی نہ جائیں گی“۔ اور ظاہری صلاح، باطنی صلاح کی دلیل ہے۔ اور عفت و عصمت عورت کا تاج ہے اور کوئی گھر عفت و عصمت کا گوارہ نہیں ہوتا، مگر وہاں راحت و سکون، امن و چین اور خوشحالی و آسودگی کے بہار کی ریل پیل ہوتی ہے۔

اور یہاں اس بات کا ذکر شاید لطف سے خالی نہ ہو کہ جب نمیری شاعر نے حجاج بن یوسف کے سامنے اپنا یہ شعر پڑھا:

يُخَمَّرْنَ اطْرَافَ النَّبَانِ مِنَ التَّقَىٰ وَيَخْرُجْنَ جَنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتٍ
(وہ تقویٰ شعاری کے سبب انگلیوں کے پوروں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں اور رات کی تاریکی میں بھی اپنی اوڑھنیوں میں لپٹ کر نکلتی ہیں)، تو یہ سن کر حجاج نے کہا: ”یقیناً مسلمان آزاد عورت کا یہی شیوہ و طریقہ ہوتا ہے“۔

۵۔ بری لالچ اور شیطانی خیالات کی کاٹ: حجاب ایذا دہ باتوں اور مردوزن کے قلوب کی بیماریوں سے اجتماعی حفاظت (سوشل سیفٹی) ہے۔ یہ بری لالچ کو کاٹتا ہے، خائن نگاہوں کو روکتا ہے، مردوزن کی عزت و آبرو میں غلاظت و گندگی کو دفع کرتا ہے اور پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت و بہتان، اس کے سلسلہ میں گندی باتوں کی اشاعت اور شکوک و شبہات جیسے شیطانی وسوسے و خطرات سے حفاظت کرتا ہے۔

۶۔ شرم و حیا کا تحفظ: حیا ”حیاة“ سے مشتق ہے، اس لئے حیا کے بغیر حیات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور حیا وہ پاکیزہ خصلت ہے جسے اللہ تعالیٰ ان نفوس میں ودیعت کرتا ہے جن کو وہ عزت و تکریم سے نوازا نا چاہتا ہے۔ حیا فضائل کی ترغیب دیتی ہے اور رذائل کے منہ پر طمانچہ رسید کرتی ہے۔ وہ انسانی خصوصیات، فطری خصلت اور اسلامی اخلاق میں سے ایک نہایت اہم عادت ہے۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور یہ اہل عرب کے قابل ستائش اخلاق میں سے ایک ہے جسے اسلام نے نہ صرف برقرار رکھا، بلکہ اس کی پُر زور دعوت بھی دی۔
عترہ عبسی اپنے شعر میں کہتا ہے:

وَ اَعْطُ طَرَفِي اِنْ بَدَثَ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَا وَاها

”میں اپنی نگاہ نیچی کئے رہتا ہوں، جب میری پڑوسن میرے سامنے نمودار ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا محفوظ ٹھکانہ اسے اپنی آغوش میں چھپالے۔
چنانچہ حیا کی براہ راست تاثیر فضائل سے آراستگی اور محفوظ قلعہ و فصیل کی طرف پلٹتی ہے جو نفس کو برے اخلاق و عادات کے دلدل میں پھنسنے سے روکتی ہے۔

اور حجاب حیا کے تحفظ کا ایک بااثر، فعال اور کارگر وسیلہ ہے، اور حجاب کی نقاب کشائی کا مطلب حیا کی نقاب کشائی ہے۔

۷۔ حجاب مسلمان معاشرہ میں تہجد و سفور، بے حیائی و بے پردگی اور اختلاط کے دخول و نفوذ کو روکتا ہے۔

۸۔ حجاب بدکاری و زنا کاری اور باحیت کے خلاف ایک مضبوط محفوظ قلعہ ہے، جس سے عورت ہر سنگ صفت آدمی کے منہ ڈالنے کا برتن بننے سے محفوظ رہتی ہے۔

۹۔ عورت ستر و پردہ اور حیا کی چیز ہے اور حجاب اس کی چادر ہے۔ اور حجاب تقویٰ کی علامت ہے، ارشادِ بانی ہے: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ أَيْكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ (الاعراف: ۲۶) ”اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے“۔ عبدالرحمن بن اسلم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اللہ کا خوف کھائے اور اپنی شرمگاہ کو چھپائے، یہی تقویٰ کا لباس ہے“۔

اور نبی کریم ﷺ سے منقول مرفوع دعا میں آیا ہے: ﴿اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي﴾ ”اے اللہ! تو میری شرمگاہ کو چھپا، اور مجھے خوف والی باتوں سے امن دے“۔ اسے امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ! تو ہماری اور مومن عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔

۱۰۔ غیرت و حمیت کا تحفظ: اس کی تفصیل اصول نمبر (۱۰) میں آرہی ہے۔

چوتھا اصول

عورت کی خانہ نشینی شرعی عزیمت ہے اور گھر سے نکلنا ایک رخصت

جو تاحد ضرورت محدود ہوگا

عورتوں کے لئے خانہ نشینی کا التزام ہی اصل ہے، ارشادِ بانی ہے: ﴿وَقَرْنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (الاحزاب: ۳۳) ”اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو“۔
اس لئے یہ عورت کے حق میں شرعی عزیمت ہے اور ان کا گھر سے باہر خروج
ایک رخصت و اجازت، جو صرف بقدر حاجت و ضرورت ہی جائز ہوگا۔

اسی وجہ سے اس کے بعد: ﴿وَلَا تَبْرَأْنَ جَنَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ آیا
ہے، یعنی ”تم کثرت سے بن سنورا اور سج دھج کر اور خوشبوؤں میں ڈوبے گھروں
سے نہ نکلو جو اہل جاہلیت کا طریقہ و شیوہ رہا ہے“۔

اور عورتوں کو گھروں میں قرار سے رہنے کا حکم دیواروں اور پردوں سے اجنبی
مردوں کے سامنے نکلنے اور اختلاط سے حجاب و پردہ ہے۔ جب عورتیں اجنبی مردوں
کے سامنے نکلیں تو ان پر ایسے لباس کا حجاب فرض ہے جو ان کے پورے جسم اور کبھی
و مصنوعی زینت کے لئے ساتر ہو۔

اور جو قرآن کریم کی آیات پر غور و تدبر کرے گا وہ پائے گا کہ گھروں کی
اضافت کتاب اللہ کی تین آیات کریمہ میں عورتوں کی طرف کی گئی ہے، جبکہ گھروں
کے مالک ان کے شوہر یا ان کے اولیاء و سرپرست ہوتے ہیں۔ اور یہ اضافت

۔ واللہ اعلم۔ عورتوں کے خانہ نشینی کے التزام میں موافقت و مداومت برتنے کی وجہ سے کی گئی ہے، جسے خانہ نشینی کے التزام اور اس کے ساتھ چپکے رہنے کی اضافت کہتے ہیں، ملکیت کی اضافت نہیں، ارشاد ربانی ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (الاحزاب: ۳۳)، دوسری جگہ ارشاد الہی ہے: ﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (الاحزاب: ۳۴) ”اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو“۔ تیسری آیت یہ ہے: ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (الطلاق: ۱) ”نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو“۔

اس اصول کی محافظت و پابندی سے شریعت مطہرہ کے درج ذیل اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں:

- ۱۔ فطرت، انسانی وجود کی حالت اور رب العالمین کی شریعت کے فیصلہ کی رعایت، جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان عادلانہ تقسیم کار کے ذریعہ کی ہے کہ عورت کا وظیفہ و کام اندرون خانہ ہے، تو مرد کا وظیفہ و کام بیرون خانہ۔
- ۲۔ شریعت کے اس فیصلہ کی رعایت کہ اسلامی معاشرہ ایک انفرادی اور غیر مخلوط معاشرہ ہے۔ اس لئے عورت کا رہن سہن عورت کے ساتھ خاص ہے اور وہ چہار دیواری اور گھر کے اندر ہے، جبکہ مرد کا رہن سہن مرد کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ گھر سے باہر ہے۔

۳۔ عورت کے اپنے وظیفہ حیات کے ٹھکانہ میں قرار سے رہنا: گھر عورت کو

اور گھر میں اس کے متعدد وظیفوں کی ادائیگی کا بحیثیت بیوی، ماں، شوہر کے گھر کی مالکن اور اس کے حقوق: چین و سکون کی محافظ، کھانے و پینے و لباس کی تیاری اور نسل کی تربیت کنندہ ہونے کا شعور و احساس دلاتا ہے۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا﴾ (متفق علیہ) ”عورت اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی“۔

۴۔ عورت کی خانہ نشینی خود اس وظیفہ کی ادائیگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز وغیرہ کی شکل میں فرض کیا ہے۔ اس لئے عورت پر گھر سے باہر کوئی کام فرض نہیں، اس سے جمعہ اور نماز کی جماعت میں حاضری کی تکلیف ساقط کر دی گئی ہے اور اس پر حج کی فرضیت محرم کے وجود کے ساتھ مشروط ہے۔

اور ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دوران حج اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا: ﴿هَذِهِ تُمْ طَهُورُ الْحُصْرِ﴾ ”یہی حج بس! پھر چٹائی کی پیٹھ“۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں: ”یعنی چٹائی کی پیٹھ کو لازم پکڑے رہنا اور گھروں سے باہر نہ نکلنا“۔

شیخ احمد شاہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح (عمدة التفسیر ۳/۱۱) میں رقمطراز ہیں: ”جب یہ فرض حج کے بعد دوبارہ حج کی ممانعت کے بارے میں ہے، جبکہ حج

اللہ کے نزدیک تقرب حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، تو پھر اس صورت حال کے سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے جو اس دور کی عورتیں جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ملکوں ملکوں میں گھومتی پھرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بے حجاب، نافرمان و گستاخ بلا د کفر کو تنہا بلا محرم یا شوہر کے نکل پڑتی ہیں، ایسا لگتا ہے گویا اس کے محرم کا وجود ناپید ہے، پس کہاں کھو گئے مرد؟ اور کہاں مر گئی مردانہ غیرت؟؟

عورت سے فریضہ جہاد ساقط کر دیا گیا ہے، اسی بنا پر نبی کریم ﷺ نے کبھی بھی جہاد میں عورتوں کا جھنڈا نہیں نصب کیا۔ اسی طرح آپ کے بعد خلفاء نے اور نہ عورت نے کسی بھی جنگ یا کسی بھی جنگی مہم کی قیادت کی۔ بلکہ جنگ میں عورتوں سے مدد لینا یا جنگوں میں عورتوں کا کثیر تعداد میں شریک ہونا امت کے اضمحلال اور اس کے عقائد و نظریات کے فساد و بگاڑ کی دلیل ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَغْزُوا الرِّجَالَ وَلَا نَغْزُو وَلَا نَنْصِفُ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ”مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد سے محروم ہیں، اور ہمیں میراث میں نصف حصہ ملتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اور تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے“۔ اسے امام احمد اور حاکم وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شیخ احمد شا کر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح (عمدة التفسیر ۳/ ۱۵۷) میں رقمطراز

ہیں: ”یہ حدیث ہمارے دور کے ان کذاب و مفتری لوگوں کا رد کرتی ہے جو مومنین کے درمیان بدکاری پھیلانے کے حریص ہیں، وہ عورت کو اس کی قیامگاہ و حفاظت اور حجاب سے نکالتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسے کھلی بانہہ و کھلی ران اور اپنے آگے و پیچھے کو نمایاں کئے بے حیا و فاجرانہ فوجی شعبہ و ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کرتے ہیں جس کا حقیقت میں ہدف نوجوان فوجیوں کو ملعون ذہنی آسودگی پہنچانا ہے جو فوج کی ملازمت کی وجہ سے عورتوں سے محروم ہیں اور جو یہود و انگریز بدکاروں کی نقل ہے، ان پر قیامت تک برابر لعنتوں کی بارش ہو“۔

۵۔ اس مقصد کی تحقیق جسے شریعت مطہرہ نے اپنے دائرہ: عورت کی عزت و تکریم، عفت و عصمت کا تحفظ اور خانگی و طائف میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی قدر و منزلت جیسے عظیم مقصد میں احاطہ کر رکھا ہے۔

اس سے صاف عیاں ہے کہ عورت کا گھر سے باہر کام اور مرد کے میدان کار میں اس کی شرکت ان مقاصد عالیہ کا بالکل صفایا کر دیتی ہے، یا کم از کم ان میں خلل ضرور ڈال دیتی ہے اور ایسی صورت حال میں وہ مرد سے اس کے وظیفہ میں جنگ کے مترادف ہے اور اس پر مرد کی حاکمیت و قوامیت کی تعطیل اور اس کے حقوق کا غصب ہے۔ کیونکہ مرد کو دو عالموں میں زندگی بسر کرنا ہوتا ہے، ایک رزق حلال کی طلب، جہادِ زندگی، طلبِ معاش کی ریس اور تعمیرِ زندگی میں تلاش و جستجو کی دنیا۔ اور ظاہر ہے یہ گھر کے باہر کی دنیا ہے۔ دوسرا راحت و سکون اور اطمینان و آرام کی دنیا، اور یہ گھر کے اندر کی دنیا ہے۔ اور عورت کے اپنے گھر سے خروج کے بقدر مرد کے

داخلی و گھریلو دنیا میں خلل واقع ہوگا اور وہ اپنی راحت و چین گم کر دے گا جس کے سبب اس کے خارجی دنیا میں عملاً خلل واقع ہوگا، بلکہ اس سے مرد و عورت دونوں کے درمیان ایسی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، جس کا انجام گھر کے بکھراؤ اور ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور کیا خوب عربی مثل ہے: ”الرَّجُلُ يَجْنِي وَالْمَرْأَةُ تَبْنِي“ ”مرد پھل چنتا ہے اور عورت سنواری ہے“۔ اور اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں عورت پر دوسرے سلبی اثرات بھی اس کے پیچھے مرتب ہوتے ہیں۔ بلاشبہ اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور مصلحتِ عامہ، فطرتِ انسانی اور سعادت و کامرانی سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ پھر عورت کے حق میں وہ اعمال کیسے مباح ہو سکتے ہیں جو اس کی فطرت و طبیعت اور نسوانیت سے میل نہ کھائے، کیونکہ وہ کسی کی اہلیہ ہوتی ہے، اسے حمل و زچگی اور رضاعت کے مراحل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ گھر کی ملکہ، بچوں کی دایہ اور نسلوں کے اولین مدرسہ: گھر کی تربیت کنندہ ہے۔

اور جب عورتوں کے گھر میں قرار سے رہنے کے حکم سے یہ اصول ثابت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے گھروں کی حرمت و تقدس کا تحفظ کر دیا، اور وہاں کسی شک و بدگمانی کی وصولی سے ان کی حفاظت کر دی اور ہر ایسی صورت کی ممانعت کر دی جو اس کے پردہ کی باتوں سے بے حجاب کرے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلہ کے وقت خطرہ نظر سے تحفظ کے لئے اجازت لینے کا حکم نازل فرمایا، ارشادِ ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،

فَبِإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۷﴾ (النور: ۲۷ تا ۲۹) ”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لئے سراسر بہتر ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لئے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں! غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔“

﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا﴾ کا مطلب ہے کہ ”تم اجازت لے لو“۔ اور ﴿تُسَلِّمُوا﴾ کا مطلب ہے ”تمہیں اجازت مل جائے اور تمہارے سلام کا جواب دے دے“۔

اور سنت صحیحہ اس بارے میں وارد ہوئی ہے کہ اس آنکھ کی دیت رایگاں و باطل ہے جو بلا اجازت دوسرے کے گھر میں جھانک رہی تھی اور اس حالت میں اسے پھوڑ دیا گیا تھا۔ اور اجازت لینے کا ادب و طریقہ یہ ہے کہ اجازت لینے والا دروازہ کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو، بلکہ اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، دروازہ نرمی

وآہستہ سے کھٹکھٹائے، زور زور سے نہیں، اور السلام علیکم کہے اور ایسا تین بار کرے۔
یہ سب کچھ مسلمانوں کی عزت و آبرو اور حجاب و پردہ کی چیزوں کی حفاظت
کے لئے ہے، جب وہ گھر میں ہوں۔ پھر اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو
عورتوں کو مکمل آرائش و زیبائش کے ساتھ بے حجاب مردوں کے دوش بدوش
گھروں سے نکالنے کا نعرہ لگاتا ہے؟ اس لئے اے اللہ کے بندو! اس عمل کا التزام
کرو جو اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔

اور جب بلا ضرورت عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے کی کثرت ہو جائے تو
سمجھ جائیں کہ یہ عورتوں پر حاکمیت و قوامیت کے ضعف کے باعث ہے، یا بالکل یہ
نگرانی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لئے ہم راغبین نکاح کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ
حسن انتخاب کا ثبوت بہم پہنچائیں اور بہت زیادہ گھر سے باہر گھومنے پھرنے والی
عورتوں سے اجتناب کریں جو کاموں میں مشغولیت کے وقت ان کے غائبانہ
اوقات فرصت کو سڑکوں و بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لئے غنیمت جانیں گی۔
اور یہ بات عورتوں کی طبیعت اور ان کے گھر والوں کی پرورش و پرداخت سے معلوم
ہو جاتی ہے۔

پانچواں اصول

اختلاط شرعاً حرام ہے

اختلاط وہ تباہ کن مرض ہے جو عفت و عصمت کے حجاب کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا
ہے۔ اس لئے اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اجنبی مرد و عورت کے درمیان علیحدگی اور

دوری رکھی جائے۔ اور اسلامی معاشرہ۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک انفرادی معاشرہ ہے، مخلوط و مشترک معاشرہ نہیں ہے۔ چنانچہ مردوں کے لئے الگ معاشرہ ہے اور عورتوں کے لئے الگ و خاص معاشرہ۔ اور عورت مردوں کے معاشرہ میں مداخلت نہیں کرے گی، البتہ ضرورت و حاجت کے وقت اور وہ بھی شرعی ضابطوں کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر جاسکتی ہے۔

اور یہ سب عزت و آبرو اور حسب و نسب کے تحفظ، فضائل کی حفاظت و نگرانی، شکوک و رذائل سے دوری، اور عورت کو اس کے بنیادی خانگی و طائف کی انجام دہی سے ہٹا کر دوسرے وظائف میں مشغول نہ کرنے کے سبب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اختلاط کو خواہ وہ تعلیم گاہوں میں ہو، یا عمل کے آفسوں میں، کانفرنسوں میں ہو، یا عام اجتماع گاہوں میں اور یا خاص اجتماع گاہوں میں بہر صورت حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے عزت و آبرو کی پامالی، امراضِ قلوب، وساوسِ نفوس، مردوں کے ہیجڑاپن، عورتوں کے مردانہ پن، شرم و حیا کا زوال، عفت و حشمت کی کمی اور غیرت و حمیت کے فقدان جیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اور یہی سبب ہے کہ اہل اسلام کی پوری تاریخ میں اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط کا کوئی عہد و زمانہ نہیں رہا ہے۔ اور سرزمین اسلام میں اس اختلاط کی اولین چنگاری ’’عالمی استعماری اسکول‘‘ کے توسط سے جلائی گئی جو سب سے پہلے لبنان میں کھولے گئے۔ مزید تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب: ’’المدارس الاستعمارية: تاریخها و مخاطرها علی الأمة الإسلامية‘‘ (استعماری اسکول: تاریخ

اور مسلمانوں پر اس کے خطرات) کا مطالعہ کریں۔

اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محکوم کو رام کرنے اور زیر دست بنائے رکھنے کا سب سے قوی ہتھیار یہی ہے کہ اس کی عزت و کرامت کے بنیادی وسائل و ذرائع کو سبوتاژ کر کے اسے فضائل سے بالکل عاری کر دیا جائے۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

نیز یہ تاریخی حقیقت معلوم ہونا چاہئے کہ بے حیائی و اختلاط کسی بھی تہذیب و تمدن کے انہدام اور حکومت کے انحطاط و زوال کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے، جس کی زندہ مثال یونانی اور رومی تہذیب ہے۔ اور یہی خواہشات اور گمراہ کن مذاہب و نظریات کا انجام بھی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (فتاویٰ: ۱۳/۱۸۲) میں رقمطراز ہیں: ”بنو امیہ کی حکومت کے خاتمہ کے اور دیگر اسباب کے علاوہ ایک بڑا سبب یہی جمع بن درہم تھا جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتا تھا“۔

اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ (الطرق الحکمیۃ ۳۲۴ تا ۳۲۶) میں رقمطراز ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے: ”فصل: اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ولی امر اور صاحب اقتدار پر واجب ہے کہ وہ بازاروں، چوراہوں، سڑکوں اور مردوں کے اجتماع گاہوں میں مردوزن کے اختلاط پر پابندی عائد کرے“۔

چنانچہ امام و حکمراں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اختلاط سے عظیم فتنہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ”میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں زیادہ ضرر رساں ہو“۔ اور ایک دوسری حدیث

میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَكُنَّ حَافَاثَ الطَّرِيقِ﴾ ”تم راستہ کے کناروں سے چلو“۔

اور حکمراں پر واجب ہے کہ وہ عورتوں کے زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر نکلنے پر پابندی لگا دے اور ان کپڑوں کی ممانعت کر دے جنہیں پہن کر بھی وہ عریاں نظر آتی ہیں، مثلاً کھلے و باریک لباس۔ نیز عورتوں کے سڑکوں پر مردوں سے گفتگو کرنے اور مردوں کو ان سے کلام کرنے پر روک لگا دے۔

اور صاحب اقتدار کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنی صوابدید سے عورتوں کے کپڑوں کو سیاہی و کالک سے پوت دے، اگر وہ خوب سچ دھج کر فتنہ سامان بن کر نکلیں۔ اس سلسلہ میں بعض فقہاء نے اجازت دی ہے، اور یہ صحیح فتویٰ ہے۔ اور یہ اس طینت کی عورتوں پر ادنیٰ مالی سزا ہے۔

اور حکمراں طبقہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر عورت خوب سچ دھج کر کثرت سے گھر سے باہر گھومنے پھرنے والی ہو تو اسے جیل میں ڈال دے۔ بلکہ عورت کو گھومنے پھرنے کی کھلی چھوٹ گناہ و معصیت پر اس کی اعانت ہے اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ حکمراں طبقہ سے ضرور باز پرس کرے گا۔

اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے مردوں کے راستہ پر چلنے اور ان کے ساتھ اختلاط پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس لئے حکمراں طبقہ کو اس معاملہ میں فاروق اعظم کی اقتدار کرنا چاہئے۔

اور امام خلیل نے اپنی جامع میں کہا کہ مجھ کو محمد بن یحییٰ کحال نے خبر دی کہ

انہوں نے ابو عبد اللہ سے کہا: ”میں برے آدمی کو عورت کے ساتھ پاتا ہوں، تو اس وقت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی آواز لگا دو“۔ اور نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ: ﴿أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ﴾
 ”عورت جب عطر میں ڈوبے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے“۔

اور عورت جب بخور و دھونی استعمال کرے تو اس پر مسجد میں عشاء کی نماز کے لئے حاضری سے پابندی لگا دی جائے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ﴿الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ﴾ ”عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان صفت آدمی اسے ٹکلی باندھ کر دیکھتا ہے“۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کی کھلی چھوٹ ہی مصیبت اور شر و فساد کی جڑ ہے۔ نیز اختلاط قدرت کی طرف سے عام بلاؤں کے نزول کا ایک عظیم سبب ہے، ساتھ ہی یہ عوام و خواص کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک ہے اور مردوزن کا اختلاط کثرتِ فواحش و زنا کاری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جبکہ زنا کاری عمومی اموات اور متعدی طاعون (ایڈز) کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور جب بدکار عورتوں اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا اختلاط ہوا، اور ان میں بدکاری عام ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی، جس سے صرف ایک دن میں ستر ہزار آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ واقعہ کتب تفسیر میں بہت مشہور و معروف ہے۔

چنانچہ اجتماعی اموات کے بڑے اسباب میں زنا کاری کی کثرت ہے، کیونکہ

عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط اور ان کے درمیان خوب سچ دھج کر حسن کی نمائش کر کے گھومنے پھرنے کی کھلی چھوٹ دیدی گئی ہے۔ اگر اولیاء امور اور صاحب اقتدار حکمراں جانتے کہ اس میں دنیا اور عوام کے بگاڑ کا دین کے بگاڑ سے قبل کتنا سامان موجود ہے تو وہ اس کو پوری سختی کے ساتھ منع کر دیتے، اتنی۔

انہی اسباب کی بنا پر اختلاط کے ذرائع و محرکات نیز مرد و زن کے مابین علیحدگی و دوری کی سنت کو پامال کرنے والے وسائلِ اعلام و ذرائعِ ابلاغ کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ کے بعض احکام درج ذیل ہیں:

☆ اجنبی عورت پر دخول اور اس کے ساتھ خلوت بہت ساری صحیح احادیث کی بنا پر حرام ہے۔ اور اس حرمت میں ڈرائیور، خادم اور ڈاکٹر کی عورت کے ساتھ خلوت داخل ہے۔ اور عورت ایک خلوت سے دوسری خلوت کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، مثلاً گھر میں خادم کے ساتھ خلوت رہتی ہے، تو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اور کیلینک میں ڈاکٹر کے ساتھ..... اور.....

☆ بلا محرم عورت کا سفر حرام ہے، اس سلسلہ کی متواتر احادیث مشہور ہیں۔

☆ مرد و عورت میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کو قصداً دیکھنا قرآن و سنت کے نص سے حرام ہے۔

☆ مردوں کا عورتوں پر دخول حرام ہے، حتیٰ کہ دیور اور شوہر کے قریبی رشتہ دار کا بھی۔ پھر مختلف فیملیوں کا ایک ساتھ مخلوط مجلس جما کر بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خاص طور سے جبکہ وہاں زینت کی آرائش، فتنہ خیز اعضاء کی نمائش اور نرم و شیریں

لہجہ میں گفتگو اور ہنسی و مذاق کا دور چلتا ہے۔

☆ مرد کا اجنبی عورت کے جسم کا مس و لمس حرام ہے، حتیٰ کہ سلام کے وقت مصافحہ بھی۔

☆ مرد و عورت میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کی مشابہت حرام ہے۔

☆ عورت کے لئے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مشروع کیا گیا ہے۔ نماز اسلامی گھروں کا شعار ہے، اور عورت کا اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جیسا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔

☆ اسی سبب سے عورت پر جمعہ کی فرضیت ساقط کر دی گئی ہے، البتہ اسے جامع مسجد جانے کی درج ذیل شرائط و احکام کی پابندی کے ساتھ اجازت ہے:

۱۔ لوگ اس کے فتنے سے اور وہ خود لوگوں کے فتنے سے مامون و محفوظ ہو۔

۲۔ اس کی مسجد حاضری میں کوئی شرعی ممانعت مرتب نہ ہو۔

۳۔ مسجد کے راستے اور خود مسجد میں اس کی مردوں کے ساتھ مزاحمت نہ ہو۔

۴۔ وہ عام حالت و ہیئت میں جائے، عطر و خوشبو لگا کر نہیں۔

۵۔ وہ پورے حجاب کے ساتھ جائے، تبرج، زینت کی نمائش اور اس کے جسم کا کچھ بھی حصہ بے حجاب نہ ہو۔

۶۔ مسجد کا ایک دروازہ عورتوں کے لئے خاص ہو، اس کا دخول و خروج اسی

دروازہ سے ہو۔ جیسا کہ اس سلسلہ میں سنن ابوداؤد وغیرہ کی حدیث ثابت ہے۔

۷۔ عورتوں کی صف مردوں کے بعد اور پیچھے ہو۔

۸۔ عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، اور مردوں کی بہترین صف اس کے برعکس پہلی صف ہے۔

۹۔ نماز میں امام کو کوئی سہو و نسیان لاحق ہو تو مرد تسبیح کے ساتھ اسے متنبہ کرے، مگر عورت تالی بجائے۔

۱۰۔ عورت مسجد سے مردوں سے پہلے نکلے، اور مردوں پر واجب ہے کہ وہ عورتوں کے گھر لوٹ جانے کا انتظار کریں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے۔

اس کے علاوہ بعض دیگر احکام بھی ہیں جو مردوں و عورتوں کے درمیان علیحدگی و دوری اور تفاوت پر دال ہیں۔

یہاں یہ انتباہ بھی ضروری ہے کہ اباحت کے داعیوں کے پاس کچھ ابتدائی تدریجی مراحل ہیں جو وہ بتدریج ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان میں بھیانک مکر و فریب اور دھوکہ پوشیدہ ہے۔ ان میں سے ایک اختلاط کی بنیادی اینٹ رکھنے کے لئے وہ ریاض الاطفال (نرسری اسکول)، وسائلِ اعلام کے پروگرام، بچوں کے لئے اخباری تعارفی کالم، اور جشن و تقریبات میں دونوں صنفوں کا ایک دوسرے کو پھولوں کا گلستہ پیش کرنے جیسے شروعاتی ہتھیار سے آغاز کرتے ہیں۔

تنبیہ: جب روضۃ الاطفال (نرسری اسکول) میں دونوں صنفوں کے

درمیان اختلاط ناقابل قبول ہے، کیونکہ طویل اسلامی تاریخ کے کسی دور میں حتیٰ کہ مکتب میں بھی بچوں کو تعلیم دینے کے لئے مسلمانوں کا ایسا کوئی مخلوط عمل نہیں رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہی پھر اوپر کے مراحلِ تعلیم میں اختلاط کی بنیاد بنے گا، اس لئے ابتدائی مرحلہ کی پہلی کلاسوں میں لڑکا لڑکی کے مخلوط تعلیم کی دعوت بدرجہ اولیٰ ناقابل قبول ہے۔ اس لئے اے مسلمانو! ہوشیار!! دھوکہ میں نہ پڑ جانا!!!

اور اس طرز سے اور ان جیسے ابتدائی مراحل و شروعات سے اختلاط سے نفور کے حجاب کو سبوتاژ کرنے کے یہ سب اسباب و ذرائع ہیں جنہیں بہت سارے لوگ معمولی اور سہل سمجھے ہوئے ہیں۔

اس لئے مسلمانوں کو اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کھانا چاہئے اور اپنی روشِ زندگی کا احتساب کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد عطا کئے ہیں، ان کی حفاظت و نگرانی کرنا چاہئے۔ اس لئے خبردار! خبردار تفریط سے بھی اور قبولِ فتنہ سے بھی اور گمراہی کے زینوں کی طرف بتدریج قدم بڑھانے سے بھی۔ اور یہ ظاہر ہے ہر شخص کو خود اپنا حساب دینا ہے۔

☆ ☆ ☆

☆ ☆

☆

چھٹا اصول

تبرج اور سفور شرعاً حرام ہیں

لفظ ”تبرج“ ”سفور“ سے عام ہے۔ ”سفور“ چہرہ سے پردہ ہٹانے کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ”تبرج“ عورت کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم و کسبی و مصنوعی زینت کے بعض حصہ کو کھولنے اور ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

”تبرج“ کا معنی ظہور کے ہے، اور یہاں اس سے مراد عورت کا اپنے جسم و زینت کے بعض حصہ کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی معنی میں ستاروں کو ان کے ظہور کے سبب ”بروج السماء“ کہتے ہیں۔ یعنی آسمان کی زینت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”تبرج“ عورت کے اپنے محل سے ظاہر ہونے سے مشتق ہے، کیونکہ ”برج“ کا ایک معنی محل و قصر کے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيَّةٍ﴾ (النساء: ۷۸) ”گو تم مضبوط قلعوں میں ہو“۔ اور ”برج المرأة“ کا معنی عورت کا محل و گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حق میں فرماتا ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الاحزاب: ۳۳) ”تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو“۔

اور ”سفور“ سفر سے مشتق ہے جس کے معنی ”پردہ اٹھانے“ کے ہیں، اور یہ اعیان کے ساتھ خاص ہے۔ کہا جاتا ہے: (امرأة سافرة) اور (امرأة سافرة) جب عورت اپنے چہرہ سے حجاب اور نقاب اتار لے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ (عيس: ۳۸) ”اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔“ یعنی دمک رہے ہونگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے دوسرے اعضاء کو چھوڑ کر ”اسفار“ کو چہرہ کے ساتھ خاص کیا۔

سابقہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”سفور“ چہرہ کی بے حجابی کو کہتے ہیں اور ”تبرج“ چہرہ یا جسم کے دوسرے اعضاء یا کبھی مصنوعی زینت کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اس طرح ”سفور“ ”تبرج“ سے خاص ہے۔ اور عورت جب اپنا چہرہ کھول لے تو وہ ”سافرة متبرجة“ کہلاتی ہے، اور جب چہرہ کے ساتھ جسم کے دوسرے اعضاء یا کبھی مصنوعی زینت کو کھول لے تو ”متبرجة حاسرة“ کہلائے گی یہی ”سفور و تبرج“ کی حقیقت ہے۔

اور کتاب و سنت اور اجماع امت عورت کے تبرج کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں اور وہ ہے عورت کا اپنے جسم یا کبھی مصنوعی زینت میں سے بعض حصہ اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔

نیز کتاب و سنت اور اجماع عملی، عورت کے چہرہ بے حجاب کرنے کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ عورت کا اپنے چہرہ سے حجاب اٹھا دینا ہے۔

اور ”تبرج“ سابقہ شریعت میں بھی حرام تھا، اور انسان کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قانون میں صرف قانونی مسودہ میں حرام ہے، جس کا حقیقت واقعہ میں کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف قانون کی لاشی میں منع ہے بس۔ جبکہ اسلام میں تبرج ایمانی جذبہ و روک، اہل اسلام کے قلوب پر اس کے اثرات کا نفوذ، اللہ اور اس

کے رسول ﷺ کی اطاعت، عفت و فضیلت سے آراستگی، رذائل سے بُعد، گناہ سے علیحدگی، اجر و ثواب کی امید، دردناک عقاب کے خوف جیسے اسباب کی بنیاد پر حرام ہے۔ اس لئے مسلمان عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے عقاب سے ڈریں اور ہر اس حرکت سے باز آئیں جو اللہ و رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں میں فساد و بگاڑ کے نفوذ، فواحش و منکرات کے انتشار، گھر و خاندان کی تباہی اور بدکاری و زنا کاری کے دخول کی حصہ دار نہ بنیں، اور اس صورت حال تک معاملہ نہ پہنچ جائے کہ وہ خیانت کارنگا ہوں اور مریض دلوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سبب بن جائیں، وہ خود بھی گنہگار ہوں اور دوسروں کو بھی اس میں ملوث کریں۔

یاد رکھیں کہ ”تبرج“ درج ذیل باتوں سے بھی ہوتا ہے:

۱۔ تبرج چہرہ کی بے نقابی اور اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کا کچھ بھی حصہ ظاہر کرنے سے ہوتا ہے۔

۲۔ تبرج اپنی کسی و مصنوعی زینت میں سے کچھ بھی مثلاً چادر، یا اوڑھنی کے نیچے کے کپڑوں کو ظاہر کرنے سے ہوتا ہے۔

۳۔ تبرج بانگن، مستانہ الیبیلی چال اور مردوں کے سامنے منگ منگ کر چلنے سے بھی ہوتا ہے۔

۴۔ تبرج پیر پکنے کہ جس سے عورت کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، سے ہوتا ہے۔ اور یہ زینت کو دیکھنے کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ شہوت میں اشتعال پیدا کرتا ہے۔

۵۔ تبرج نرم و شیریں لہجہ میں گفتگو سے بھی ہوتا ہے۔

۶۔ تبرج مردوں کے ساتھ اختلاط، مردوں کے جسم سے مس و لمس، مصافحہ،

سواری یا تنگ راستوں میں ایک دوسرے سے مزاحمت سے بھی ہوتا ہے۔

اور ہر وہ عورت تبرج پسند کہلائے گی جو مردانہ پن، مردوں یا کافر عورتوں کی

مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور یورپ میں بعض لوگ مردانہ پن اختیار کرنے والی

عورت کو ”جنس ثالث“ یعنی تیسری جنس کا لقب و نام دیتے ہیں۔

تبرج کی حرمت پر کتاب اللہ میں بہت ساری آیات کریمہ آئی ہیں، جن میں دو

آیات تو تبرج کی ممانعت کے سلسلہ میں قطعی نص ہیں:

پہلی آیت: یہ فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَى﴾ (الاحزاب: ۳۳) ”اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج دکھاتی نہ پھرو“۔

دوسری آیت: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ، وَأَنْ

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۰) ”بڑی بوڑھی

عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی

گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی

احتیاط رکھیں تو ان کے لئے بہت افضل ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے“۔

نیز امہات المؤمنین اور مسلمان عورتوں پر پردہ و حجاب کی فرضیت اور ان کو

زینت ظاہر کرنے کی ممانعت والی آیات تبرج و سفور کی حرمت پر قطعی نصوص ہیں۔

سنت سے دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُّيْمِلَاتٍ، رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا﴾ ”اہل نار کی دو صنف میں نے نہیں دیکھی ہے: ایک ایسی قوم جس کے ساتھ بیل کی دم جیسے کوڑے ہونگے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود تنگی ہوگی، خود مردوں کی جانب مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی جانب مائل کریں گی، ان کے سر سختی اونٹ کے کوبان جیسے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے بھی پائی جاتی ہے“۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث پاک کے اس نص میں سخت وعید ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تبرج کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم، یا غضب، یا لعنت، یا عذاب، یا حرمان جنت کی وعید سنائی ہے۔ اور حرمت تبرج پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، جیسا کہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے (منہج الغفار علی ضوء النہار ۴/۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲) کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔

نیز تبرج مسلمانوں کے عملی اجماع سے بھی حرام ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کے دور مبارک سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمہ ۱۳۴۲ھ اور عالم اسلام کے مختلف

ککڑیوں میں تقسیم ہونے اور وہاں پر انگریزی استعمار کے داخل ہونے تک تمام مسلمان عورتیں اپنے جسم وزینت کا حجاب کرتی تھیں اور تبرج نام کی چیز سے بالکل ناہل اور کوسوں دور تھیں۔

اور بعض شاعر نے اپنے قصیدہ ”رنا نہ“ میں سفور کے داعیوں کی تردید کرتے ہوئے اپنے مطلع میں کہا ہے:

مَنَعَ السُّفُورَ كِتَابُنَا وَنَبِيْنَا فَاسْتَنْطَقِي الْآثَارَ وَالْآيَاتِ
 ”بے حجابی سے ہماری کتاب قرآن مجید اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے، اس لئے آیات و احادیث سے معلوم کر لو“۔

لہذا ایک مسلمان کو اپنے محارم میں تبرج کے آغاز و شروعات سے چوکنار ہونا چاہئے، اور وہ یہ کہ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسے لباس پہنانے میں مددہمت سے کام نہیں لینا چاہئے کہ اگر وہی لباس بالغ لڑکیوں کے جسم پر ہو تو فحاشی و بے حیائی کہلائے، مثلاً چھوٹا و تنگ لباس، پینٹ و جنس، اتنا باریک لباس کہ نیچے سے چھڑی جھلکے وغیرہ جہنمی لباس۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ نیز ایسی صورت میں تبرج و سفور سے انسیت و الفت، جذبہ نفرت کی شکست و ریخت، شرم و حیا کا خاتمہ جیسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی صاحب بصیرت سے مخفی نہیں۔ اس لئے ہر ولی امر اور سرپرست کو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔

☆ ☆ ☆

ساتواں اصول

زنا کاری کی حرمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب

و محرکات کو بھی حرام کیا ہے

شریعتِ مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے، تو اس چیز تک پہنچانے والے تمام اسباب و ذرائع اور اس کے چور دروازوں کو بھی حرام کرتا ہے، تاکہ اس کی حرمت بالکل پکی و قطعی ہو جائے۔ اور اس شیئی تک پہنچنے، یا اس کی چہار دیواری کے قریب پھٹکنے سے منع ہو جائے اور ارتکابِ گناہ اور اس کے فرد و جماعت پر نقصان دہ نتائج میں گرفتار ہونے سے حفاظت ہو جائے۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے اور اس چیز تک پہنچانے والے وسائل و ذرائع کو مباح قرار دے دیا جائے، تو یہ بات اس حرمت کی نفی و ضد شمار ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ربِ حکیم کی شریعت ایسے تناقض سے پاک و بری ہے۔

اور زنا کی بدکاری، خطرہ و نقصان اور دین کی بدیہیات کے انجام کے اعتبار سے سب سے عظیم، سب سے گھناؤنے اور سب سے خبیث فواحش میں سے ایک ہے۔ یہی سبب ہے کہ زنا کی حرمت دین کی بدیہی باتوں میں سے ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الاسراء: ۳۲) ”خبردار! زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ زنا بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے“۔

اسی بنا پر زنا کاری تک لے جانے والے اسباب و محرکات، بے حجابی اور اس کے وسائل، تبرج اور اس کے عوامل، اختلاط اور اس کے ذرائع، عورتوں کی مردوں یا کافروں کی مشابہت جیسے فتنہ و فساد اور شکوک و شبہات کے اسباب و محرکات کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

نیز اسرارِ تنزیل اور اعجازِ قرآنی کے اس عظیم راز پر بھی ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آغاز میں جرمِ زنا کی شناخت اور اس کی حرمت ایک خاص مقصد کے تحت بیان کی، تو اس نے ایک سے تینتیس آیت تک اس سے حفاظت کے بارہ وسائل و ذرائع بیان کئے، جو اس فاحشہ زنا کے لئے حجاب و روک بنے اور مسلمانوں کی صاف ستھری پاکیزہ جماعت و معاشرہ میں اس کے وقوع و شیوع کا مقابلہ کیا جاسکے۔ اور یہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی وسائل قوی و فعلی اور ارادی سبب قسم کے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

۱۔ زنا کار مرد و عورت کو ان پر حد نافذ کر کے پاک کرنا۔

۲۔ زنا کار مرد و عورت سے اجتنابِ نکاح سے پاکیزگی و طہارت کا ثبوت دینا۔ البتہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہوگا۔ مذکورہ دونوں وسائل فعل سے تعلق رکھتے ہیں۔

۳۔ زبان کو لوگوں پر زنا کاری کی تہمت و بہتان سے پاک رکھنا۔ اور جو شخص کسی پر بہتان لگائے اور چار گواہ نہ پیش کر سکے تو اس پر حدِ قذف نافذ ہوگی۔

۴۔ شوہر کا بیوی پر زنا کاری کا بہتان لگانے سے اپنی زبان کو پاک رکھنا۔ اگر

شوہر چار گواہ نہ اکھٹا کر سکے، تو پھر دونوں کے درمیان لعان کرایا جائے گا۔

۵۔ اپنے قلب و نفس کو کسی مسلمان پر زنا کاری کی بدگمانی سے پاک رکھنا۔

۶۔ نیت و قلب کو مسلمانوں میں فحاشی و بے حیائی کی اشاعت کی محبت سے پاک

رکھنا۔ کیونکہ فحاشی و بے حیائی کی اشاعت سے ان کے منکرین کا پلڑا کمزور ہوتا ہے اور فساق و اباحت پرستوں کے پلڑے کو تقویت ملتی ہے۔

اور یہی سبب ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی سزا دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں

نہایت سخت ہے، ارشادِ بانی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ

فِي الَّذِينَ آمَنُوا، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (النور: ۱۹)

’جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لئے

دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے‘۔

اور اشاعتِ فحاشی کی محبت ان تمام خبیث وسائل و ذرائع کو شامل ہے، جو ان

فواحش تک لے جانے والے ہیں، خواہ ان کا تعلق قول سے ہو، یا فعل سے، یا اقرار

سے ہو، یا ان کے اسباب کی ترویج سے، یا پھر ان پر خاموشی برتنے اور چپ سادھ

لینے سے، اور اور۔

اور یہ سخت وعیدِ بلادِ اسلامیہ میں عورت کی حجاب سے آزادی اور ان تمام شرعی

احکام سے گلو خلاصی کے داعیوں پر بھی منطبق ہوتی ہے، جو عورت کی عفت و عصمت

اور حیا و حشمت کے ضامن ہیں۔

۷۔ نفس کی وسوسہ اور برے خیالوں سے عام حفاظت: جو مومنوں کے دلوں پر

شیطان کے حملہ کا پہلا قدم ہے، تاکہ وہ اسے بدکاری میں ملوث کر دے۔ اور یہی بدکاری سے حفاظت کا ہدف ہے، ارشادِ بانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (النور: ۲۱) ”اے ایمان والو! شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے، تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔“

۸۔ گھر میں داخلہ کے وقت اجازت لینے کا حکم: تاکہ گھر والوں کی عزت و آبرو پر نظر نہ پڑے۔

۹۔ اجنبی عورت پر حرام نظر ڈالنے سے آنکھ کو پاک رکھنا، یا اجنبی مرد کو حرام نظروں سے دیکھنے سے آنکھ کو پاک رکھنا۔

۱۰۔ اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا۔

۱۱۔ ان حرکتوں پر پابندی جن سے مرد کی جنسی شہوت میں اشتعال پیدا ہو، مثلاً عورت کا پیر پٹکنا، جس سے اس کے پازیب کی جھنکار سنائی دے، اور جو مریض دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔

۱۲۔ ہر اس شخص کو پاکدامنی اختیار کرنے کا حکم جو نکاح کرنے، یا اس کے اسباب مہیا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

اور قرآن حکیم اور سنت مبارکہ میں ان اسباب و تدابیر کو اختیار کرنے کے احکام بھرے پڑے ہیں، جن میں مرد و عورت دونوں کے حق میں اس بدکاری سے

حفاظت و صیانت کے سامان موجود ہیں۔ چنانچہ وہ بعض احکام جو مرد کے حق میں مرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، درج ذیل ہیں:

۱۔ مرد کے لئے ستر چھپانے کی فرضیت۔ اس لئے مرد کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا ستر ناف سے گھٹنہ تک کھول رکھے۔

۲۔ مرد کا اجنبی عورت سے اپنی نظر کا حجاب کرنا۔

۳۔ مرد کا مرد لڑکوں کے ساتھ مصاحبت اور ان کو بنظر شہوت دیکھنے سے باز رہنا۔ اور بعض احکام عورت کے حق میں عورت سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً:

۱۔ عورت کا دوسری عورت سے اپنا ستر چھپانا۔

۲۔ عورت پر اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کرنے کی حرمت۔

اور زنا کاری سے حفاظت و بچاؤ کے عظیم ترین اسباب و تدابیر میں مسلمان عورتوں پر حجاب کی فرضیت ہے، کیونکہ حجاب ان کی حفاظت کی ترغیب دیتا ہے اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ان کی زندگی عفت و عصمت، حفاظت و حجاب، حیا و حشمت اور ان کے سلسلہ میں زنا کی بدگمانی و بدکلامی اور زبان درازی سے دوری میں گزرے۔ اور حجاب اس کے منافی باتوں جیسے شہدائین، چھچھورپن، اخلاقی گراؤ اور حیا باختگی کو کوسوں دور بھگاتا ہے۔

☆ ☆ ☆

آٹھواں اصول

نکاح فضیلت کا تاج ہے

نکاح انبیاء و رسولوں کی سنت مبارکہ ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (الرعد: ۳۸) ”ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا“۔

اور نکاح ہی اللہ کے حکم کی تسلیم و رضا میں مومنین کا راستہ ہے، ارشادِ الہی ہے: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النور: ۳۲ تا ۳۳) ”تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح کے ہوں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہونگے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کِشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاکدامن رہنا چاہئے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے“۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء و خاندان کے سرپرستوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دے۔ ”ایامی“، ”ایم“ کی جمع ہے، اور مرد و عورت میں سے جس کا زوج (جوڑا) نہ ہو اسے ”ایم“ کہتے ہیں۔ اور یہ حکم

بدرجہ اولیٰ خود اولیاء کو بھی شامل ہے کہ وہ خود بھی اپنا نکاح عفت و پاکدامنی اور بدکاری سے حفاظت کی غرض سے کر لیں۔

نیز رسول اللہ ﷺ کے حکم کی اطاعت کی غرض سے نکاح کر لیں۔ کیونکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (متفق علیہ) ”اے نوجوانو! تم میں جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے، وہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کی حدت کو توڑ دے گا۔“

اس معنی و مفہوم کی روایات بکثرت آئی ہیں۔ اور رحمن کے بندوں کی دعا میں آیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ۷۴) ”اور وہ یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

اور یہی سبب ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آدمی پر تکبیر فرمائی جو نکاح سے اس بنا پر باز آ گیا تھا تا کہ وہ رات میں تہجد گزاری و قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکے، چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿أَمَّا وَاللَّهِ! إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ

لِلَّهِ، وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ﴿﴾ (متفق علیہ) ”یاد رکھو! اللہ کی
قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ رکھتا ہوں، تاہم میں روزہ
رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تہجد گزاری کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں
سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اس لئے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے
نہیں ہے۔“

اور نکاح دونوں صنفوں: مرد و عورت میں ودیعت جنسی فطرت کے تقاضوں پر
پاکیزہ، صاف ستھرا اور نتیجہ خیز طریقہ پر بلیک و صا د کرنا ہے۔

انہی اسرار و حکم کی بنا پر مسلمانوں میں نکاح کی مشروعیت پر کوئی اختلاف نہیں
رہا ہے۔ اور نکاح کی بابت اصل وجوب و فرضیت ہے، اس آدمی کے حق میں جسے
اپنے نفس پر گناہ و بدکاری میں ملوث ہو جانے کا خوف و خدشہ ہو، خصوصاً ان
حالات میں جبکہ دین و ایمان کی کمزوری اور اشتعال انگیز باتوں کی بھرمار ہو،
کیونکہ ایک مومن بندہ پر اپنے نفس کی عفت اور اسے حرام کاری سے دور رکھنا
واجب ہے اور اس کا پاکیزہ و حلال طریقہ نکاح ہی ہے۔

اس بنا پر علماء نے نکاح کرنے والے کے لئے یہ مستحب جانا ہے کہ وہ اپنا نکاح
کرتے وقت سنت پر عمل اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی نیت کرے۔ اور اسی
سبب سے اللہ تعالیٰ نے ”ععضل“ سے منع فرما دیا ہے، اور ”ععضل“ عورت کو نکاح
سے روکنے کو کہتے ہیں، ارشادِ بانی ہے: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ ﴿البقرة: ۲۳۲﴾ ”تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو“۔

انہی اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی شان کو نہایت بلند کیا ہے اور عقدِ نکاح کو ”میثاقِ غلیظ“ (مضبوط ترین عہد و پیمان) سے تعبیر کیا ہے، ارشادِ باری ہے:

﴿وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: ۲۱) ”اور ان عورتوں نے تم سے ”مضبوط عہد و پیمان“ لے رکھا ہے“۔

عقدِ نکاح کے اس پاکیزہ نام ”مضبوط عہد و پیمان“ کی شگفتگی پر غور کریں، کس طرح قلوب کو اپنی مٹھی و قبضہ میں کر لیا ہے اور اسے عزت و احترام اور رعایت و حفاظت کے دائرہ میں سمولیا ہے۔ تو کیا اب مسلمان، نکاح کے کلیسائی نام (مقدس نکاح) سے اجتناب کرنا پسند کریں گے جو بہت سارے مسلمان ملکوں میں کافروں کے نقشِ قدم کی پیروی میں شدت و تیزی کے ساتھ در آیا ہے؟۔

اس لئے نکاح مرد و عورت کے مابین ایسا شرعی تعلق ہے جو شریعت میں معتبر شرائط و ارکان اور مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اور نکاح کی اسی اہمیت کی بنا پر اکثر فقہاء و محدثین نے نکاح کے باب کو جہاد کے باب پر مقدم رکھا ہے، کیونکہ علمِ جہاد مردوں کے ہاتھ سے بلند ہوتا ہے اور مردوں کی تیاری و فراہمی کا ذریعہ صرف نکاح ہے۔ اور نکاح ہی حیاتِ انسانی کے قیام اور اسے استقامت و دوام بخشنے میں اعلیٰ ترین مقام کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ نکاح میں بہت سارے عظیم مصالح اور حکمت اور نیک مقاصد مجتمع ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱۔ حفظِ نسل اور انسانی معاشرہ کے قیام و دوام کے لئے نوعِ انسانی کا توالد و تناسل: تاکہ شریعت کی اقامت، دین کی سر بلندی، کائنات کی تعمیر و ترقی اور روئے زمین کی اصلاح و آباد کاری ہو، ارشادِ ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: آیت ۱) ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔“ نیز ارشادِ الہی ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ (الفرقان: ۵۴) ”اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔“

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آدمی کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس سے بہت ساری ذریت پھیلا دی اور انہیں نسب و سسرالی دو الگ الگ رشتوں میں متفرق و مجتمع طور پر تقسیم کر دیا اور ان سب کا مادہ وہی حقیر پانی ہے، تو پاک ہے قدرت والی ذات اور وہ خوب دیکھنے والی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کثرتِ نکاح کی ترغیب دی ہے، چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ”تم زیادہ بچہ جننے والی اور بہت پیار دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت سے

بروزِ قیامت انبیاء پر فخر کروں گا۔“ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔
یہ حدیث فضیلت کے سابق اصول ”عورت کا گھر میں قرار سے رہنا“ کی طرف
توجہ مرکوز کرتی ہے۔ کیونکہ کثرتِ نسل بذاتِ خود مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد کثرتِ
نسل کے ساتھ، اس کا صلاح و تقویٰ، استقامت اور صحیح تربیت و نشوونما ہے تاکہ وہ
امت میں صالح و مصلح، والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی وفات کے بعد ان
کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اور ظاہر ہے یہ بات کثرت سے بیرونِ خانہ کی سیاحت
کرنے والی عورت سے جو اپنے گھریلو زندگی کے وظیفہ سے دور کر دی گئی ہے، نہیں
پیدا ہو سکتی۔ اور اس کے والد کے ذمہ کسب و نفقہ کا بار اس کی حفاظت و رعایت کی بنا پر
ہے اور یہی مرد و عورت کے درمیان فرق و امتیاز کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
۲۔ عزت و آبرو کا تحفظ، شرمگاہ کی حفاظت، عفت و عصمت کا حصول، فواحش

و معاصی سے اجتناب اور فضائل سے آراستگی:

یہ مقصد بدکاری اور اس کے وسائل و ذرائع: تہرج، اختلاط اور نظرِ حرام کی
حرمت کا متقاضی ہے۔ نیز محارم کی عزت و آبرو کی پامالی پر غیرت و حمیت اور اس
کے اثر و نفوذ کی روک تھام کے لئے بند و باڑھ باندھنے کا مقتضی ہے۔ اور اس کے
بند و باڑھ میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عورتوں پر حجاب کی تنفیذ ہے۔ پھر
ایک بار غور کریں کہ ان دونوں مقاصد نے کیسے فضیلت کے اصول کو مجتمع کرنے
کے عمل کو شامل کر لیا ہے، تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

۳۔ نکاح کے دیگر مقاصد کی تکمیل و حصول: مثلاً چین و سکون اور راحت و

اطمینان کا وجود، جس میں شوہر زندگی کی تلخی، مشقت اور زبوں حالی سے اور بیوی محنت و کمائی کی مشقت سے سکون و اطمینان حاصل کرتی ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۲۸) ”عورتوں کے لئے بھی معروف طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں“۔

قارئین کرام! آپ اس بات پر غور کریں کہ عورتوں کی کمزوری کس طرح مردوں کی قوت سے مل کر منجمد ہو جاتی ہے اور پھر دونوں صنف باہم آپس میں کامل و مکمل ہو جاتے ہیں۔

نکاح غنا و مالداری اور فقر و فاقہ کے دور کرنے کا ایک سبب ہے، ارشادِ الہی ہے:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ۳۲) ”تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کسناہگ و والا اور علم والا ہے“۔

اور نکاح ہی زن و شوہر میں سے ہر ایک سے بیکاری و بے روزگاری، انسدادِ فتنہ، محنت و کمائی اور عفت و عصمت کی زندگی لانے کا ایک سبب ہے اور جائز طریقہ، جبکہ نکاح سے استمتاع و تلذذ اور تکمیلِ خواہش و احتیاج اس پر مستزاد ہے۔

اور نکاح ہی سے میاں و بیوی میں سے ہر ایک کی اہلیت و صلاحیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ خصوصاً مرد کے ذمہ داری سنبھالنے اور مشقتِ زندگی کا مقابلہ کرنے کے

لئے اس کے حوصلہ و مردانگی کی تکمیل ہوتی ہے۔

اور نکاح ہی سے زن و شوہر کے درمیان باہمی الفت و محبت اور رحمت و مودت اور تعاون و تعاطف پر مبنی تعلقات استوار ہوتے ہیں، ارشادِ باری ہے: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفُرُونَ﴾ (الروم: ۲۱) ”اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں“۔

اور نکاح ہی سے دوسرے خاندانوں سے قرابت و سرالی رشتہ کی زندگی وسیع تر ہوتی رہتی ہے، جس کے آپسی تعاون، رابطہ اور تبادلہ منافع میں نہایت عمدہ اور دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر مصالح ہیں جن کا دائرہ کثرتِ نکاح سے وسیع تر ہوتا ہے اور قلتِ نکاح سے تنگ تر ہوتا ہے اور فقدانِ نکاح سے بالکل یہ ناپید ہو جاتا ہے۔

مقاصدِ نکاح کے علم ہی سے اعراضِ نکاح کے نقصانات اور دیگر برے انجام و نتائج معلوم ہو جاتے ہیں: مثلاً نسلِ انسانی کا انسداد و انقطاع، قندیلِ حیات کا گل ہونا، شہروں و آبادیوں کی بربادی و ویرانی، عفت و عصمت کا خاتمہ وغیرہ۔

اور اعراضِ نکاح کے قوی ترین اسباب میں سے ایک نئی نسل کے قلوب میں دینی تربیت کا ضعف و فقدان ہے۔ کیونکہ دل میں ایمانی تربیت کی قوت و مضبوطی

آدمی کو عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت پر راغب کرتی ہے۔ اس لئے وہ اپنی جدوجہد اور کدوکاوش کو اپنے نفس کی عفت و پاکدامنی پر مجتمع کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق: ۲) ”اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا“۔

اور اعراضِ نکاح کے قوی اسباب میں سے ایک بے جلابی و بے پردگی، تہرج و سفور اور اختلاط کا وبائی شکل میں انتشار و پھیلاؤ ہے۔ کیونکہ ایک عقیف آدمی اس بیوی پر خوف کھاتا ہے جو تحفظِ عفت و عصمت کو حقیر و معمولی سمجھتی ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی بدکاری کے کوٹھوں، چکلوں اور قجہ خانوں کی گشت سے حرام کاری کا راستہ پالیتا ہے۔ اور ہم برے انجام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اعراضِ نکاح کا مقابلہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ سفور و تہرج اور اختلاط کا مقابلہ کیا جائے۔ اس تفصیل سے یہ اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ نکاح سابقہ فضیلت کے اصولوں کو کس طرح اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے۔

☆☆☆☆☆

نوان اصول

گمراہ کن آغاز سے اولاد کی حفاظت کی فرضیت

نکاح کے عظیم ترین نتائج میں سے ایک اولاد کی پیدائش ہے۔ اور اولاد والدین یا اولیاء کے پاس بطور امانت ہیں۔ اس بنا پر شرعاً یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس بار امانت کو اسلام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق اولاد کی تربیت اور ان کی دینی و دنیوی ضروری تعلیم کے ذریعہ ادا کیا جائے۔ اور اس معاملہ میں اولین فرض اللہ تعالیٰ، ملائکہ، کتاب، رسول، یوم آخرت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان کے عقیدہ اور توحیدِ خالص کو ان کے قلوب میں راسخ و پیوست کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے قلوب کی بشاشت کے ساتھ حل جائے، اور ان کو ارکانِ اسلام کی تعلیم دی جائے۔ نماز کی وصیت کی جائے اور ان کی صلاحیتوں کے چلا کی نگرانی کی جائے اور فضائلِ اخلاق اور محاسنِ آداب سے ان کی فطرت و عادت کو نشوونما فروغ دیا جائے، اور برے ساتھیوں، شر پسند دوستوں اور رذیل لوگوں کی صحبت سے ان کی حفاظت کی جائے۔

تربیت کے یہ خطوط و معالم دین کی بدیہی باتوں میں سے ہیں۔ اور تربیت کی اسی اہمیت کے سبب علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اور نومولود بچوں کے احکام کا ذکر فقہی کتابوں کے صفحات میں برابر کیا گیا ہے۔

اور یہی تربیت انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت طیبہ اور اولیاء و اصفیاء کی پاکیزہ شیوہ و عادت اور اخلاق رہی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو اس جامع نصیحت اور لمبی و نافع وصیت پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، ارشادِ بانی ہے: ﴿وَادِّ

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ
جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، يَا بُنَيَّ أقيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ
مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩٣﴾ (لقمان: ١٩٣)

”اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ پیارے بچے!
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس
کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل
میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی
شکرگزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس
بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو، تو ان کا کہنا

نہ ماننا، ہاں! دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے تاکید کی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔‘

یقیناً لڑکے کو ایک باپ کی اس وصیت نے تربیت اور بچوں کے بنانے سنوارنے کے اصول اپنے اندر پرولئے ہیں اور یہ بات اس آیت پر غور کرنے والے پر نہایت واضح ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶) ”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“ اور بیٹا باپ سے ہے، اس لئے اسے لفظ ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ شامل ہے، اور بیٹا اہل سے بھی ہے، اس لئے اسے لفظ ﴿أَهْلِيكُمْ﴾ بھی شامل ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ﴿عَلْمُوهُمْ

وَأَدَّبُوهُمْ ﴿٢٩٥﴾ ”تم بچوں کو تعلیم وادب سکھایا کرو“۔ اسے ابن ابی الدنیانے (کتاب العیال ۱/۴۹۵) میں روایت کیا ہے۔

اور نیک اولاد کی دعا تو مومن آدمی کا شیوہ رہا ہے، جیسا کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ۷۴) ”اور جو یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا“۔

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کا مطہج و فرمانبردار دیکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار دیکھے“۔ اسے ابن ابی الدنیانے (کتاب العیال ۲/۶۱۷) میں روایت کیا ہے۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ حدیث میں ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ﴾ ”تم میں سے ہر شخص نگران و نگہبان ہے اور سب سے اس کے ماتحت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، چنانچہ آدمی اپنے اہل بیت کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے اہل بیت کے بارے میں باز پرس ہوگی“۔

مذکورہ نصوص سے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اولاد کی تربیت کی فرضیت و وجوب واضح ہے۔ نیز اولاد اپنے اولیاء کے کندھوں پر ایک امانت ہیں، اور

اسلامی تعلیم و تربیت، اولیاء و آباء پر اولاد کا حق ہے۔ اور یہ نیک اعمال میں سے ایک ہے جس کے ذریعہ والدین اپنے رب کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب مثل صدقہ جاریہ جاری و ساری رہتا ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ﴾
 ”جب آدمی مر جاتا ہے، تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے، البتہ تین طریقوں سے نہیں کٹتا: ایک علم کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہیں، تیسرا صدقہ جاریہ“۔ اور اس امانت کے سلسلہ میں کوتاہی برتنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان و گنہگار ہے اور اپنے رب کے حضور اپنی معصیت کا بوجھ اور وہ بھی تمام بندوں کے سامنے ضرور اٹھائے گا۔ حمید ضعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ”كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ أَقْوَامًا سَحَبُوهُمْ عِيَالَتَهُمْ عَلَى الْمَهَالِكِ“ ”ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ کچھ قوموں کو ان کے اہل و عیال نے ہلاکت کے گڈھوں میں کھینچ لایا“۔ اسے ابن ابی الدنیانے (کتاب العیال ۲/۶۲۲) میں روایت کیا ہے۔

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (التغابن: ۱۴) ”اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا“۔ اور اولاد کی تربیت میں کوتاہی برتنا ہی ماں باپ کے حق میں ان کی

عداوت و دشمنی ہے۔ چنانچہ گناہ بھی انہیں کے سر لوٹے گا۔

قائدہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”كَانَ يُقَالُ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ الْآبُ فَأَصَابَ فَاحِشَةً أَيْمَ الْآبِ“ ”کہا جاتا ہے: جب لڑکا بالغ ہو جائے اور باپ اس کی شادی نہ کرائے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، تو باپ گنہگار ہوگا“ اسے ابن ابی الدنیانے (کتاب العیال ۱/۱۷۲) میں روایت کیا ہے۔ اور مقاتل بن محمد عتقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ابواسحاق ابراہیم حربی کے پاس حاضر ہوا، تو ابراہیم حربی نے میرے والد سے دریافت کیا: ”یہ تمہارے بچے ہیں؟“۔ میرے والد نے کہا: ہاں! انہوں نے فرمایا: اِخْذْ لَا يَرَوْكَ حَيْثُ نَهَاكَ اللَّهُ فَتَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِهِمْ“ ”ہوشیار رہنا! یہ بچے تم سے ایسی حرکت نہ دیکھ پائیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، پھر تم ان کی نگاہوں سے گرجاؤ گے“۔ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب (صفة الصفة) میں بیان کیا ہے۔

اولاد کے حق میں یہ تفریط و کوتاہی باپ کو اس کی ولایت سے معزولی، یا ایک دوسرے صالح شخص کو اس کی ولایت میں شامل کرنے کا موجب ہے، نئی پود و نسل کے اسلام و اخلاق پر ان تربیت گاہوں اور پرورش کدوں کے خطرات کے سبب، کیونکہ قاعدہ ہے کہ کافر یا فاسق کو ولی امر بننے کا حق نہیں ہوتا۔

اور یہاں معاملہ ضرر رساں شروعات اور گمراہ کن آغاز کی تشخیص کا ہے، جن کا ان بچوں کو سامنا ہے جو مفید و مضر اشیاء کے درمیان فرق و امتیاز کے ساتھ مرحلہ تیز کو

پہنچ چکے ہیں۔ اور بچوں کی صلاحیت میں فرق و تفاوت کی وجہ سے ان کی تمیز میں بھی فرق و تفاوت ہوتا ہے۔ یہ وہی آغاز ہیں جن میں جذبات و وجدانات کی تحریک سے مغلوب ہو کر اولاد کی تربیت میں تساہل برتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بچہ اپنے رشد و بلوغ کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ان اذیت ناک صورتحال کو ایک خوشگوار گھونٹ سمجھ کر پی چکا ہوتا ہے اور وہ اس کے خون و دل میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، نیز اس کے اور اس کے مضر یا گمراہ کن اثرات کے درمیان نفرت و حجاب کا پردہ چاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اور والدین و اولیاء سخت اضطراب، گھٹن اور اس کو سلامتی کی راہ پر واپس لانے میں بڑی مشقت و دشواری میں گھر کر رہ جاتے ہیں، گویا زبان حال کہتی ہے:

﴿يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ (الزمر: ۵۶) ’ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی‘۔

اس لئے کتاب و سنت کے دائرہ میں اس اصول کی تفصیل بیان کرنا اور اولیاء کی توجہ اس طرف مبذول کرنا واجب ہو گیا ہے جو فطرت کی بنیادوں، صحیح عقیدہ اور عقل سلیم پر مبنی ہو، تاکہ یہ نئی پود و نسل کی اولین تربیت، اور ان کی اور ان کے دین و دنیا کے مضر آغاز سے حفاظت کا سامان بن سکے۔ اور ان فضائل خاص طور پر حجاب کے تباہ کن و ہلاکت خیز آغاز میں سے درج ذیل امور ہیں:

۱۔ فاسق کی گود و پرورش: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ﴾ ’ہر نوجو مولود فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس

کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں،‘۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔

یہ عظیم حدیث پاک نومولود پر اس کے والدین کے اثر و رسوخ کی گہرائی اور اسے اس کے فطرت کے تقاضوں سے منحرف کر کے کفر و فسق و فجور میں ڈال دینے کی حد بیان کر رہی ہے۔ اور یہ ان شروعات کا آغاز ہے۔

اور ان شروعات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ماں بے حجاب و حیا باختہ ہو، بکثرت گھر سے باہر گھومنے پھرنے والی ہو، اہل جاہلیت جیسی زینت کی نمائش کی یاد تازہ کرنے والی ہو، مردوں کے معاشرے و جھرمٹ میں براجمان ہوتی ہو، تو اس کی یہ عادت و خصلت اس کی لڑکی کے لئے انحراف و برگشتگی، اچھی تربیت اور اس کے مضبوط تقاضے: حجاب و پاکدامنی اور شرم و حیا سے اسے کہیں دور ڈال دینے کی عملی تربیت شمار ہوگی جسے ”فطری تعلیم“ کا نام دیا جاتا ہے۔

اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ گھر کی خادمہ، ماما اور دائی کا بچوں پر کتنا گہرا سلبی و ایجابی اثر پڑتا ہے۔ اس بنا پر علماء نے بچوں پر ان پرورش گاہوں کے ان کے اسلام، اخلاق اور استقامت پر انہی خطرات کے سبب یہ قرارداد پاس کی ہے کہ کافر یا فاسق کی کوئی حضانت یا پرورش درست نہیں۔

۲۔ خوابگاہوں میں اختلاط: عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لَسْبَعِ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ ”اپنی اولاد کو

سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور انہیں دس سال کی عمر میں نماز کے لئے مارو، اور ان کے خوابگاہ الگ الگ کر دو۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پاک اندرون خانہ اختلاط کے آغاز سے ممانعت کے سلسلہ میں نص ہے۔ جب بچے دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کے والدین و اولیاء پر ان کے خوابگاہ الگ الگ اور لڑکا و لڑکا، یا لڑکی و لڑکی، یا لڑکا و لڑکی کے اختلاط سے منع کر دینا واجب ہے، تاکہ بچپن ہی سے ان کے نفوس میں عفت و حیاداری کا بیج بویا جاسکے، اور شہوت کی تحریک کے خوف سے بچا جاسکے کہ جہاں اختلاط کا یہ آغاز پہنچا دیتا ہے۔ اور جو چراگاہ کے آس پاس بکریاں چرائے، عین ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔

ابراہیم حربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: **”أَوَّلُ فَسَادِ الصَّبِيَانِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ“** ”بچوں کے فساد و بگاڑ کا پہلا بیج ایک دوسرے سے اختلاط سے پڑتا ہے۔“ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب **”ذم الہوی“** میں ہے۔

۳۔ نرسری اسکول میں اختلاط: یہ بیرون خانہ اختلاط کی شروعات کی اولین ابتدا ہے۔ جب خوابگاہوں میں لڑکوں کا اختلاط جبکہ وہ آپس میں بھائی ہیں، اندرون خانہ ہیں اور اپنے والدین کی نگرانی میں ہیں، شریعت نے اس اختلاط سے منع کیا ہے، تو بیرون خانہ اور وہ بھی والدین کی نگرانی ندارد، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لئے والدین کو اللہ کا خوف کھانا چاہئے کہ وہ اپنی اولاد کو ان مخلوط درسگاہوں اور تربیت گاہوں میں داخل کرے۔

۴۔ پھولوں کا گلہستہ پیش کرنا: یہ سفور و تبرج اور بے حیائی کی ابتدا ہے، جو عباۓ حیا اتار پھینکنے اور چادر غیرت کو تار تار کرنے کا آغاز ہے اور جو ایک معصوم بچی کے نفس میں بے حجابی کے آغاز کا بیج بوتا ہے۔ اور یہ اس کی ہم جنس و ہم جولی لڑکیوں میں اسی طرح سرایت کرتی ہے جیسے آگ سوکھی پتیوں میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے اللہ کے بندو! اپنی اولاد کے بارے میں اس سے خوف کھاؤ۔

۵۔ لباس میں تبرج کی ابتدا: سن تمیز والی چھوٹی بچیوں کو وہ کپڑے پہنانا جو بالغہ بچیوں کے لئے حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ مثلاً چست و تنگ لباس، یا باریک جسم جھلکنے والے کپڑے، یا وہ کپڑے جو پورے جسم کو نہ چھپائے جیسے چھوٹے کپڑے، یا جس میں تصویر ہو، یا صلیب کا نشان ہو، یا مردوں کے لباس کے مشابہ ہو، یا کافر عورتوں کے لباس کے مشابہ ہو وغیرہ عریانیت و فحاشی کے لباس، جس کے بارے میں تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بدکار اور عزت و آبرو کا سودا کرنے والی عورتوں کے یہاں سے مسلمان عورتوں میں ڈر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ستر پوشی اور حسن انجام کا سوال و دعا کرتے ہیں۔

۶۔ طالبات کے یونیفارم میں تبدیلی مردانہ پن کا آغاز ہے: تاریخ سے یہ بات پایہ ثبوت کی پہنچ چکی ہے کہ حجاب والے مدارس میں لباس کی تبدیلی، شرعی لباس کے خاتمہ کا آغاز اور تبرج کی طرف پیش قدمی کی مرحلہ وار ابتدا ہے۔ پہلے ایسے چھوٹے لباس کے ذریعہ جس سے پنڈلی کھلی رہ جائے، گرچہ موزوں سے چھپائے۔ پھر اسے بلا موزہ کھلی چھوڑ دیا جائے، پھر کافر عورتوں کی مشابہت میں گردن کا پٹہ

(ثانی) لٹکا یا جائے۔ اور یہی حال آستین کے ساتھ بھی ہو، یہاں تک کہ شرعی لباس کے ضوابط پامال کر دیئے جائیں، اختلاط کی کثرت ہو جائے اور کنٹرول مشکل پڑ جائے اور خارجین دین کے لئے اپنا ہدف: سفور و تبرج تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ نیز ورزش کے بطور تمہید نسوانی جوتے تبدیل کر کے ورزشی جوتے پہنائے جائیں اور اس طرح تبدیلیوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ طالبات کو مرد بنادینے اور کافر عورتوں کے بالکل مشابہ کر دیئے جانے کا ہدف مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ عملاً مصر کے مدارس البنات (گرلز اسکول) میں ہو چکا ہے۔ اس لئے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۳) ”جو لوگ حکمِ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔“

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

دسواں اصول

مومن عورتوں پر غیرت و حمیت واجب و فرض ہے

غیرت تحفظِ حجاب اور تبرج و سفور اور اختلاط کے دفاع کا ایک معنوی بند و قلعہ ہے، اور غیرت ہی وہ روحانی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ کے اندر ودیعت کی ہے، جس سے بندہ اپنے محارم، مجد و شرف اور ہر مجرم و دغا باز سے عفت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسلام میں غیرت کو خَلْقِ محمود اور جائز جہاد تسلیم کیا گیا ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغَارُونَ غَيْرَةَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ﴾ (متفق علیہ) ”اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے، اور مومن کو بھی غیرت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی غیرت کو یہ بات دعوت دیتی ہے کہ مومن بندہ اس چیز کا ارتکاب کرے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔“ نیز نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ قُتِلَ ذُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ”جو آدمی اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے“۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ﴿مَنْ مَاتَ ذُوْنَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ”جو شخص اپنی عزت و آبرو کے دفاع میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے“۔

اور حجاب محارم کی پامالی و بے حرمتی پر غیرت کی نشوونما کا بہت بڑا وسیلہ اور اس بلند اخلاق کے خانوادوں اور نسلوں میں توارث کا باعث ہے۔ یعنی عورتوں کی خود اپنی عزت و آبرو اور شرافت و کرامت پر غیرت، ان کے اولیاء کی ان پر غیرت اور مومنین کی اپنے محارم کی بے حرمتی یا آنچ پر غیرت، جس سے ان کی کرامت، عفت، طہارت

گرچہ اجنبی مرد کا ان کی طرف صرف ایک نظر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، مخدوش ہوتی ہے۔ اس بنا پر غیرت کی ضد ”دیوشیت“ ہے۔ اور غیور کی ضد ”دیوٹ“ ہے اور ”دیوٹ“ اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں فحاشی و بے حیائی اور برائی پر مطلع ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور ان پر اس کی غیرت نہیں پھڑکتی۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے ان تمام اسباب و ذرائع پر پابندی عائد کر دی ہے جو حجاب کی پامالی اور دیوشیت تک پہنچانے والے ہوں۔

اور قارئین کرام کی خدمت میں شیخ احمد شا کر رحمہ اللہ کا وہ نفیس بیان پیش ہے جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کی شرح کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے:

﴿مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ﴾ ”جو عورت خوشبو لگا کر مسجد جائے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ غسل جنابت جیسا غسل نہ کر لے۔“

اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ شیخ موصوف اپنی مسند کی تحقیق (۱۵/۱۰۸ تا ۱۰۹) میں رقمطراز ہیں: ”اے مسلم مرد اور اے مسلمان عورت! تم رسول اللہ ﷺ کی اس عورت کے حق میں شدید وعید پر غور کرو جو خوشبو لگا کر اپنے رب کی عبادت کے لئے مسجد کا رخ کرتی ہے کہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس خوشبو کو غسل جنابت کی طرح اچھی طرح نہ دھو ڈالے اور اس کی خوشبو کا اثر مکمل طور پر زائل و ختم نہ ہو جائے۔“

اس وعید کو دیکھو، اور پھر ان حرکتوں پر بھی نظر کرو جو ہمارے زمانہ کی فاجر

و بدکار اور حیا باختہ عورتیں کرتی ہیں اور اپنی جھوٹی نسبت اسلام کی طرف کرتی ہیں۔ وہ دراصل ان فساق و فجار کی اعانت کرتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اسلام کی بدیہیات کے خلاف جری ہو گئے ہیں، ان سب کا یہ ظنِ فاسد ہے کہ عورت کی بے حجابی اور اس کے لباس سے عاری باغیانہ روش و خروج اور بازاروں، لہو و لعب اور فسق و فجور کے اڈوں میں مردوں کے ساتھ اختلاط میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی جرأت کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ان ڈیلی گیشن اور مندوبین کے وفد میں شرکت کے لئے سفر کو حرام نہیں کیا ہے، جو ان کے یہاں ”سائنسی ڈیلی گیشن“ کے نام سے موسوم ہے۔ نیز وہ عورت کے کسی سیاسی منصب و عہدہ کی ذمہ داری سنبھالنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

ہاں! بلکہ بازاروں اور سڑکوں پر ان فساق و فاجر عورتوں کے قبیح منظر کو بھی دیکھو کہ کس طرح وہ اپنے ستر و حیا کے اعضاء کو کھول رکھی ہیں، جنہیں چھپانے کا اللہ و رسول ﷺ نے حکم دیا ہے۔ تم ایک کو دیکھو گے کہ وہ اپنے سر کو پوری آرائش و زینت کے ساتھ بے حجاب کر رکھی ہے، اپنی پستان، سینہ، پیٹھ، بغل اور اس کے نیچے کے حصوں کو کھول رکھی ہے اور ایسے لباس زیب تن کر رکھی ہے جو کچھ بھی نہیں چھپاتے، بلکہ اس لباس کے سبب نیچے کے اعضاء مزید خوشنما اور خوبصورت ترین مظہر میں نظر آتے ہیں، مزید طرہ یہ کہ یہ ساری منکر حرکات ماہِ رمضان مبارک میں بھی کرتی ہیں، نہ وہ خود حیا کرتی ہیں اور نہ وہ مرد حیا کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نگرانی و حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے، بلکہ وہ دیوث آدمی کے مثل ہو چکے ہیں۔ پھر

ان سب حرکات کے باوجود تم انہیں۔ حضرات و خواتین۔ کو مسلمان کہو گے؟‘۔
 میری عرض ہے کہ: اگر آپ حجاب اور اجنبی مردوں سے چہرہ کا پردہ کرنے کی
 فضیلت جاننے کے خواہاں ہیں تو حجاب والی عورتوں کے حال پر غور کریں کہ ان پر کیسی
 حیا و احتشام سایہ فگن ہے۔ وہ بازاروں میں مردوں کی مزاحمت سے کتنی دور اور
 برائیوں میں ملوث ہونے سے کتنی مضبوط حفاظت میں ہیں، کیا آپ ان کی طرف غلط
 نگاہوں سے دیکھنے کی جرأت کر سکتے ہیں؟۔ نیز ان کے اولیاء کے حال پر غور کریں کہ
 ان کے یہاں کیسی شرافتِ نفس اور محارم کے سلسلہ میں ان فضائل کی کیا حفاظت
 و نگرانی پائی جاتی ہے؟ اسے آپ بے حجاب اور تبرج شعاع عورت کے حال سے موازنہ
 کریں جو مردوں کے سامنے اپنے چہرہ کی دعوتِ نظارہ دیتی رہتی ہے، اور اس سے
 اسی قدر فضائل ساقط ہو چکے ہیں جس قدر اس کے یہاں بے حیائی و بے حجابی پائی جاتی
 ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک فاجر و بے حیا عورت دوسرے فاجر اجنبی شخص سے محو
 گفتگو ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ دونوں آپس میں اس عقدِ نکاح سے زن و شوہر
 ہیں جس کا گواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا؟ اور اگر اس عورت کا دیوث شوہر
 اسے اس حال میں دیکھ بھی لیتا ہے، تو اس کے نہ روٹکے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ اس
 کی رگ حمیت پھڑکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کی غیرت و حمیت دفن ہو چکی ہے۔ اور
 ہم غیرت کی موت اور برے انجام سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

یہ دیوث شوہر اس عربی بدو سے بھی کتنے پر لے درجہ کا ہے کہ اس بدو نے جب
 دیکھا کہ ایک آدمی اس کی بیوی کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس نے محارم

پر غیرت کھا کر اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ اور جب اسے اس بارے میں عتاب و ملامت کا نشانہ بنایا گیا، تو اس نے ایک پورا قصیدہ کہہ ڈالا جو تاریخ میں ”قصیدہ ہاسیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعض اشعار قارئین کی ضیافتِ طبع کے لئے پیش خدمت ہیں:

وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ وَذَلِكَ لِكثْرَةِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ
 إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ
 وَتَجْتَنِبُ الْأَسْوَدَ وَرُودَ مَاءٍ إِذَا رَأَتْ الْكِلَابَ وَلَعْنَ فِيهِ

”میں اس عورت کی محبت دل سے محو کر ڈالتا ہوں، کسی بغض و عداوت کے سبب نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ اس میں بہت سارے لوگ شریک ہو گئے ہیں۔ جب کبھی کسی کھانے پر گر جاتی ہے، تو اپنے نفس کی اشتہا کے باوجود میں اس کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں۔ اور شریف سردار شیر اس گھاٹ سے پانی پینے سے پرہیز کرتا ہے جب وہ کتوں کو وہاں منہ ڈالتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔“

نیز یہ دیوث شوہر اس عرب عورت سے بھی گیا گزرا ہے جس کا دوپٹہ چہرہ سے گر گیا، تو اس نے اپنا دوپٹہ ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اجنبی مردوں سے اپنے چہرہ کا پردہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاعر کو کہنا پڑا:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهَا فَتَنَاوَلْتُهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

”اس کی اوڑھنی گر گئی، حالانکہ وہ گرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے تو اوڑھنی اٹھالی، مگر دوسرے ہاتھ سے ہم سے پردہ و حفاظت کی۔“

اور اس سب سے اعلیٰ و عمدہ ترین مثال شیخ مدین کی ان دونوں بیٹیوں کی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے: ﴿فَجَاءَتْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ (القصص: ۲۵) ”اتنے میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک ان (موسیٰ علیہ السلام) کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ”وہ اپنے چہرہ پر کپڑا ڈال کر، شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ وہ نہ بے باک و زبان دراز لڑکی ہے اور نہ زیادہ گھر سے باہر سیاحت کرنے والی“۔ جیسا کہ ابن کثیر (۳/۳۸۴) میں ہے۔

نیز اس آیت میں ادب، عفت و پارسائی اور حیا داری کا وہ عجیب مرتبہ و مقام ہے جہاں شیخ مدین کی لڑکی تحفظ و صیانت میں پہنچی ہوئی تھی، اس نے کہا: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ ”کہنے لگی: میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت دیں“۔

لڑکی نے بلانے کی نسبت شکوک و بدگمانیوں سے بچنے کے لئے اپنی طرف نہیں کی، بلکہ اپنے باپ کی طرف کی۔ سبحان اللہ! کتنا پاکیزہ ادب ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆

دوسری فصل رذائل کے داعیوں کی نقاب کشائی

ابومحمد عبدالحق اشعری رحمہ اللہ نے کہا:

لَا يَخْدَعَنَّكَ عَنْ دِينِ الْهُدَى نَفْرٌ
لَمْ يُرْزُقُوا فِي الْإِيمَانِ الْحَقَّ تَائِدًا
عَمِي الْقُلُوبِ عُرُوا عَنْ كُلِّ قَائِدَةٍ
لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَقْلِيدًا

”تمہیں دین ہدایت سے کچھ لوگ دھوکہ میں نہ ڈال دیں، جنہیں تلاشِ حق میں تائید ایزدی نصیب نہیں ہوئی۔“

وہ دل کے اندھے اور ہر قسم کی قیادت سے عاری ہیں، کیونکہ دوسروں کی محض تقلید میں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔“

(الحديقة: لمحَب الدين الخطيب)

☆☆☆☆☆

دوسری فصل

عورتوں کو رذائل کی طرف بلانے والوں کی نقاب کشائی

اما بعد: یہ ہیں مسلمانوں کی خواتین کے لئے فضیلت کی باتیں اور یہ ہیں اس کے زریں اصول جن پر فضیلت کا قیام و دار و مدار ہے اور ان پر جارحیت و حملہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ البتہ بعض مریض دل لوگ اس سلسلہ میں اپنے اعلان شدہ نعروں کے ذریعہ اس سے خروج کرتے ہیں۔ معاذ اللہ! ہمارے کان و نگاہ کے سامنے سے منکرات کا اعلان و نعرہ بازی اور معروف پر ظلم اور اس پر قدغن کا مرحلہ گزرے اور ہمارے مصلحین میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی اس ظلم و سرکشی کے خلاف کوئی موثر آواز نہ اٹھے، جو شہری و دیہاتی سب کے کانوں تک پہنچے، تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعار قائم و بلند ہو، اور اسی شعار سے دین کا دفاع کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کھلوٹا کرنے والوں کے نعروں کے جھانسہ میں پڑنے سے نصیحت کی جاتی ہے اور اسی سے فضائل کا تحفظ اور رذائل کا توڑ اور احمقوں کا دست و گریبان پکڑا جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی علم ہونا چاہئے کہ منکرات کا انتشار و پھیلاؤ، کبار و صغائر پر سکوت و خاموشی اور صغائر کی بیجا تاویل سے ہوتا ہے۔ خصوصاً ہم اہل ریب و فتنہ میں سے چند گمنام و مجہول لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں جو مغرب کے غلام ہیں اور جن کو اللہ کے دین و شریعت کے ساتھ کھلوٹا کے ساتھ قلم اٹھانے کی وجہ سے بڑی شہرت دی جا رہی ہے اور جو صحافت و اعلام اور ذرائع ابلاغ کے پردہ میں مغرور و سر مست چال چلے جا رہے ہیں، وہ منکر سے بے انتہا

خوش ہوتے ہیں، ان کی زبان برائی کے ساتھ کھلتی ہے اور ان کی تحریر برائی کی تشہیر کے لئے ہوتی ہے۔ اور وہ سب ایک ہی معنی و مقصد پر متحد ہیں اور وہ ہے: فطرت سے مزاحمت، شریعت سے جنگ اور مسلمانوں کی عورتوں پر دامنِ رذائل کی درازی اور ان کی فضائل سے عاری جیسی جنونی انتہا پسندی، ان کے بلادِ اسلامیہ میں فاجرانہ دعوت: ”آزادی نسواں“ ”مساوات مرد و زن“ کے ذریعہ تاکہ تہرج، اختلاط اور چہرہ کی حجاب کشائی جیسے جرائم کے ہدف تک پہنچا جائے، اور موثر اسباب اپنا کر ہر چہار جانب سے ان کے نامراد نعرے، تاکہ مسلمانوں کی ان عورتوں میں جو بچا کھچا حجاب و پردہ ہے، اسے بھی نوچ ڈالا جائے۔ جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جبین سائی کی ہے اور محمد بن عبد اللہ ﷺ کی قیادت کے آگے سراطعت خم کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور ان کے لئے بھی استقامت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے سامنے ضلالت سے برأت کا اظہار کرتے ہیں اور اسی سے برے انجام سے پناہ طلب کرتے ہیں۔

اور یہ نشانے باز جو اپنی امت و قوم کے غدار و دغا باز ہیں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ہم جنس لوگوں کے لئے بلکہ خود اپنے نفس کے لئے منحوس ہیں، ان کی جرأت بڑھ کر حد کو پار کر چکی ہے، ان کا مکرو فریب متنوع ہو گیا ہے، ایسے اقوال کے ساتھ جو ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کے قلم حرکت میں آتے ہیں، کیونکہ وہ وسائلِ اعلام میں توڑ پھوڑ اور ہل چل مچا دینے کے شیدائی ہیں اور ذرائعِ رذائل کے بند و باڑھ کو سوراخ کر دینے کے درپے ہیں، فضائل کو حقارت سے

ٹھکرانے اور ان کی شان کو سبوتاژ کرنے اور فضائل و اہل فضائل کا مذاق و تمسخر اڑانے میں بالکل جٹے ہوئے ہیں۔

ہاں! ان مغرب زدہ لوگوں نے تو عورت کی زندگی کے ہر گوشے پر خامہ فرسائی کی اور ہر میدانِ عمل میں غوطہ زنی کی، مگر عورت کی نسوانیت و امومت، فطرت و طبیعت اور اس کی فضیلت و شرافت کے تحفظ کے سلسلہ میں ایک حرف تک نہیں لکھا۔ عورت کے حقوق و آزادی، تمام معاملات میں مردوں کی مساوات کے لئے مگر مجھ کے آنسو بہانے، اس کی نصرت و تائید کے نام پر، ان نسل در نسل متواتر آفات و مصائب، دلخراش مجرمانہ لغویات، کاٹ کھانے والی سفلی باتوں سے اخبار و جرائد بھرے پڑے ہیں، تاکہ یہ بے مروت مغربیت زدہ لوگ اس مجرمانہ ہدف تک پہنچ جائیں کہ عورت کو تمام شعبہ ہائے حیات میں اتار دیا جائے، دورِ اختلاط کا آغاز ہو جائے اور حجاب کو نونچ ڈالا جائے۔ بلکہ اس سے بھی آگے عورت خود برضا و رغبت اپنے چہرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے اور چہرہ سے اپنی اوڑھنی، حجاب، نقاب اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری عزت و شرافت اور فضیلت نونچ ڈالے۔

جب چہرہ سے حجاب نونچ ڈالا جائے، تو اہل غیرت کی آنکھوں کی شکست و ذلت، فضیلت کے سایہ کا تقلص، رذائل کا انتشار، دین کا اضمحلال، تہرج و سفور اور بے حیائی، زنا کار مرد و عورت کے مابین اباحت اور عورت خود کو جس کے لئے چاہے، حوالہ کر دے، جیسی گھناؤنی برائیوں کا انتشار و پھیلاؤ ہوتا ہے۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّتُوْبَ

عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿النساء: ۲۷﴾
 ”اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ“،
 کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: ”مجاہد نے کہا: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ سے مراد زنا کار لوگ ہیں، اور: ﴿أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ کا معنی ہے کہ: ”اہل اسلام بھی زنا کرنے لگیں جیسے وہ لوگ زنا کرتے ہیں“۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ یہ ہو بہو: ﴿وَذُوالْوَالِدَيْنِ فَیُذْهِقُنَّ فِیْ ذَهْنُنَّ﴾ (القلم: ۹) ”وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں“، کی شکل و ہیئت میں ہے۔“

اور اس قضیہ کا معاملہ عورت کے قضیہ سے بھی اوپر عالم اسلام کے فساد و بگاڑ کا قضیہ ہے، چنانچہ ایک مغرب پرست لیڈر اپنی غرض و غایت اور وسائل و ذرائع کی تعبیر یوں بیان کرتا ہے: ”تمام میدانوں میں جو مغربی اثر و نفوذ ظاہر ہو رہا ہے اور اسلامی معاشرہ کو ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے، یہ نمایاں طور پر اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں ہوتا، جو عورت کی آزادی میں ظاہر ہو رہا ہے“۔ اور یہ گمراہ کن منصوبہ آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے جو اس سے پہلے متعدد اسلامی ملکوں میں فحاشی و برائی پھیلانے کا جال بن چکے ہیں، یہاں تک کہ۔ ہاے افسوس!۔ حال اس حقیقت تک پہنچ چکا ہے کہ زنا کاری عام ہو چکی ہے، فحش کاری کے اڈے اور طوائف خانے سرکاری لائسنس کے تحت کھل گئے ہیں اور ڈرامہ ہال کے اسٹیج فنون لطیفہ و ردیہ، ناچ گانوں اور شو پروگراموں سے سج گئے ہیں۔ اور حدود

اسلامیہ کے سقوط پر قوانین بنائے جا چکے ہیں اور اگر مرد و عورت دونوں کی اپنی رضامندی سے زنا کاری ہو تو کوئی حد و تعزیر نہیں، وغیرہ جیسے عزت و آبرو اور اخلاق و آداب کی ہلاکت و تباہی کے آثار و نتائج سامنے آچکے ہیں۔

اور اس مجرمانہ اباہیت سے بھرپور کڑوی حقیقت سے اختلاف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے قلب سے اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا نور سلب کر لیا ہے۔

تو کیا موجودہ دور کے زر خرید مغرب کے غلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال پیدا ہو جائے جو دوسرے ممالک میں ہو چکی ہے، یعنی تشویشناک حد تک اخلاقی گراؤ اور گناہوں میں لت پت کڑوی حقیقت و صورتحال؟۔

فضائل پر اس کھلی جارحیت، رذائل کے اس مجرمانہ تعاون، اللہ کے حدود سے تجاوز اور اس کی شریعتِ مطہرہ کی حرمتوں کی پامالی کے آگے ہم مسلمان بھائیوں کو دشمنوں کے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میدان میں کچھ زر خرید مغرب زدہ لوگ ہیں اور ان کے بعض سادہ لوح فاسق مزدور پیروکار، ہر نعرہ کے پیچھے بھاگنے والے، جو مومنین کی عورتوں سے فضیلت چھین لینے اور ان میں خباثت داخل کر دینے کے لئے اپنے تیروں میں سونہ لگاتے ہیں۔ اور ان کی ساری ریشہ دوانیوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے:

﴿وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مِيْلًا عَظِيْمًا﴾ (النساء: ۲۷) ”اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست

سے بہت دور نکل جاؤ۔“ اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ (۸/۲۱۴ تا ۲۱۵) اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

”اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اہل باطل، زنا کاری و اپنی بہنوں سے نکاح جیسے اللہ کے حرام کردہ کاموں کے طلب گار میں سے اپنے نفس کی خواہشات کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن باتوں کی اجازت دی ہے، ان سے ہٹ جاؤ اور اس کی اطاعت سے معصیت کی طرف جھک جاؤ، اور تم اپنے نفس کی شہوات کے اتباع میں جو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کی نافرمانی میں ان کی طرح ہو جاؤ۔“ اور یہی تفسیر اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ کو عام رکھا ہے اور ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے اس وصف کو بلا کسی قید کے عام بیان کیا اور کسی بھی بری شہوت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو آیت کا وہی معنی و مفہوم اولیٰ ہوگا جس پر ظاہری آیت دلالت کرے، وہ باطنی معنی نہیں جس پر کوئی اصل یا قیاس میں سے کوئی شاہد نہ ہو، اور جب یہ صورت حال ہے تو شہوات کی پیروی کرنے والوں میں یہود و نصاریٰ، زنا کار اور ہر باطل کا پیروکار سب اس میں داخل ہونگے۔ کیونکہ اس چیز کی پیروی کرنے والا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حقیقت میں اپنے نفس کا پیروکار ہے۔ لہذا جب آیت کی یہی تفسیر اقرب و اولیٰ ٹھہری، تو اس تفسیر و معنی کی صحت بھی ثابت و واجب ٹھہری جو اس کی تفسیر میں ہم نے اختیار کیا ہے۔“

اور ان مجرمین نے اس سلسلہ میں زندگی کے تمام میدانوں میں گمراہ کن اور غضب آور لائحہ عمل پر خود کو گامزن کیا، خواہ بزبان حال یا بزبان مقال۔ چنانچہ زندگی کے عام میدانوں میں درج ذیل لائحہ عمل اپنایا گیا۔

۱۔ چہرہ سے نقاب کشائی اور چادر، اوڑھنی اور برقعہ وغیرہ سے گلو خلاصی کی دعوت: اور یہ بزبان حال پورے جسم سے حجاب اتار پھینکنے کی دعوت ہے، بلکہ یہ ہر قسم کے فتنہ سامان لباس کی دعوت ہے، خواہ وہ شکل و صورت میں فتنہ انگیز ہو، یا چھوٹے لباس کی زیب تنی سے عریانیت ہو، یا تنگ و چست لباس ہو کہ اعضاء جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو جائے، یا اتنا باریک لباس ہو کہ عورت کا جسم نیچے سے دکھائی دے، ساتھ ہی یہ لباس میں مردوں اور کافر عورتوں کی مشابہت کی دعوت ہے۔

۲۔ تمام شعبہ ہائے حیات میں اختلاط کے ہتھیار سے گھروں میں اجنبی مردوں کے بدست عورتوں کے حجاب سے جنگ کی دعوت: اور اس میں:

۳۔ فروغ زندگی اور ترقی کے تمام میدانوں میں عورتوں کو داخل کر دینے کی دعوت: اور یہ سڑکوں اور عام اجتماع گاہوں میں عورت کے بے پردہ و بے حجاب نکلنے کی دعوت ہے۔

۴۔ اجتماعوں، جمعیتوں، کمیٹیوں، کانفرنسوں، انجمنوں، محفلوں اور کلبوں میں عورت کے شرکت کی دعوت: اور اس میں عورت کے نرم و شیریں لہجہ میں گفتگو اور اجنبی مردوں سے مصافحہ کی دعوت ہے۔ نیز اسے گھر سے اجنبیوں کے سامنے اس ہیئت میں نکلنے کی دعوت ہے کہ جس سے فتنہ و اشتعال پیدا ہو، مثلاً زرق برق لباس،

بے حیا چال ڈھال، لپ اسٹک و پاؤڈر اور خوشبو کا استعمال، ایسی چیزوں کا استعمال جس سے بڑی عمر کی عورت بالکل جوان دوشیزہ نظر آئے، اور اونچی ایڑی والے جوتے چپل کا استعمال اور اس جیسے دیگر فتنہ و اشتعال انگیز اور جذبات بھڑکانے والے اسباب و وسائل کی دعوت۔

۵۔ نسوانی کلب کھولنے اور ان کی شام غزل کی محفل سجانے کی دعوت: جس میں عام آدمیوں کو شرکت کی دعوت ہو۔

۶۔ انٹرنیٹ کی مخلوط اور نسوانی قہوہ خانہ کھولنے کی دعوت۔

۷۔ عورت کی کار، گاڑی اور دیگر آلات ڈرائیونگ کی دعوت۔

۸۔ محارم کے سلسلہ میں تساہل برتنے کی دعوت: اور اس میں بلا محرم عورت کے سفر کی دعوت، تعلیم کے لئے بلا محرم مشرق و مغرب کے سفر کی دعوت، نیز کانفرنسوں اور بزنس پارٹی کے لئے سفر کی دعوت شامل ہیں۔

۹۔ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی دعوت: اس میں خاطر کے منگیتر کے ساتھ خلوت اور اس سے مصافحہ داخل ہے جبکہ دونوں کے مابین عقد نکاح مکمل نہ ہوا ہو۔

۱۰۔ عورت کے کسی فن کی نمائش کی دعوت: اور اس میں:

۱۱۔ عورت کے گلوکاری اور اداکاری کے رول کرنے کی دعوت داخل ہے، اور یہ ملکہ حسن کے انتخاب میں شرکت کی دعوت ہی پر جا کر رک سکتی ہے۔

۱۲۔ عورتوں کے مغربی فیشن شو اور صنعت ڈیزائن شو میں شرکت کی دعوت۔

۱۳۔ عورت کے لئے ورزش کا شعبہ کھولنے کی دعوت۔ اور اس میں درج ذیل

باتیں داخل ہیں:

☆ عورتوں کی فٹ بال ٹیم بنانے کا مطالبہ۔

☆ عورتوں کے گھوڑ دوڑ میں شرکت کا مطالبہ۔

☆ عورتوں کے سائیکل یا موٹر سائیکل ریس کا مطالبہ۔

۱۴۔ عورتوں کے لئے سنٹروں اور کلبوں میں سوئمنگ پول کھولنا۔

۱۵۔ عورت کے بال کے سلسلہ میں مختلف قسم کے مجرمانہ پروپیگنڈے، مثلاً ابرو

کے بال نوچ کر اسے نوکدار بنانا، سر کے بال مردوں یا کافر عورتوں جیسی کٹنگ

کرانا اور عورتوں کے لئے بیوٹی پارلر کھولنا۔

☆ اور اعلام و صحافت اور ذرائع ابلاغ کے میدان میں:

۱۶۔ اخبار و جرائد اور پرچوں و رسالوں میں عورت کی تصویر چھاپنا۔

۱۷۔ ٹیلی ویژن میں گانا گانے، اداکاری کرنے، ماڈلنگ کرنے اور اخبار نشر

کرنے کے لئے عورت کا نمودار ہونا۔

۱۸۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر براہ راست مکالماتی پروگرام پیش کرنا، جس میں

مرد و عورت کے درمیان نرم و شیریں لہجہ میں گفتگو ہو۔

۱۹۔ گھٹیا درجہ کے پرچوں اور رسالوں کی نشر و اشاعت، جو عورتوں کی عریاں

تصویر چھاپنے میں شہرت رکھتے ہوں۔

۲۰۔ اعلان اور پروپیگنڈہ کے لئے عورتوں کا استعمال۔

۲۱۔ وسائل اعلام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام اور اخبارات کے کالموں

کے توسط سے دونوں صنفوں کے مابین دوستی و یاری اور گانوں کے ہدایا کے تبادلہ کی دعوت۔

۲۲۔ مردوں اور ان کی بیویوں کے درمیان دائمی اور گود لینے والی عورتوں کی تصویر مختلف وسائلِ اعلام میں لیڈروں اور وزیروں کی سطح پر چھاپنا۔

☆ اور تعلیم کے میدان میں:

۲۳۔ ابتدائی مرحلہ میں مخلوط تعلیم کی دعوت۔

۲۴۔ عورتوں کے مردوں کو پڑھانے اور اس کے برعکس مردوں کے عورتوں کو پڑھانے کی دعوت۔

۲۵۔ گرنز اسکول میں ورزش و ریاضت داخل کرنے کی دعوت اور عورتوں کے لئے ”مدرسہ برائے فنونِ جمیلہ“ کھولنے کے مطالبہ کا یہی محرک ہے۔

☆ عمل و وظیفہ کے میدان میں:

۲۶۔ بلا استثناء مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے تمام میدانوں میں عورت کے عمل و وظیفہ کی دعوت: اور اس میں:

۲۷۔ تجارتی منڈیوں، ہوٹلوں، ہوائی جہازوں، وزارتوں، کامرس چیمبروں، کامرس کمپلیکسوں، کمپنیوں اور اداروں میں عورت کے عمل و وظیفہ کی دعوت۔

۲۸۔ سفر و سیاحت، انجینئرنگ اور پلاننگ شعبوں میں عورتوں کا آفس بنانے کی دعوت۔ اور پیشہ ورانہ صنعت مثلاً بجلی، دروازہ و کھڑکی فننگ وغیرہ کاموں میں عورت کے عمل و وظیفہ کی دعوت کا محرک یہی ہے۔

۲۹۔ عورت کو سیلز نمائندہ (سیلز ریپریزنٹیٹو) بنانے کی دعوت۔ نیز فوج و پولس ڈپارٹمنٹ میں داخل کرنے کی دعوت اور اسے میدان سیاست میں پارلیمنٹ و اسمبلی کی ممبری اور انتخابات میں حصہ لینے کی دعوت، نیز عورتوں کا کارخانہ کھولنے کی دعوت۔

۳۰۔ عورتوں کو شرعی عدالت و محکمہ میں وظیفہ دینے اور ان کے لئے ”قسم نسواں“ کھولنے کی دعوت۔ اور اور مطالبات کا طویل سلسلہ، جس کی انتہا بھی ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ جس کا مطالبہ ہرگز درست نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مجرمین کے مکرو فریب کو ناکام و باطل کر دے اور مسلمانوں سے ان کے شر کو دفع کر دے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔

تنقید کی اصلاح

عورت کے حق میں نامراد لوگوں کی دعوتوں کے یہ چند نمونے ہیں جن پر زرد صحافت نے بڑی بے حیائی کے ساتھ ۱۴۱۹ھ میں اپنی پوری توجہ مرکوز رکھی، جس کا خلاصہ آٹھ فائلوں میں آیا۔ اور جس کے ہر کٹنگ و تراشے پر اس اخبار و جریدہ کا نام، اس کا نمبر شمار اور اس کے مضمون و کالم نگار کے نام درج کئے گئے تھے۔ وہ کچھ مخلوط اور فتنہ غیب کے شکار لوگ ہیں۔ اور ان میں بعض نے تو اس جرم کے ساتھ دوسرا جرم حجاب و حجاب شعاع عورت کے مذاق و تمسخر کا اضافہ کیا ہے اور بعض احکام شریعت کے حق میں نازیبا کلمات اور جارحانہ حملہ جیسا موقف اپنایا

ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا لکھنے والا عظیم فتنہ میں گھرا ہوا ہے جو کفر و نفاق اور فسق و معصیت کے مابین دائر ہے۔

اور یہ گھٹیا اذیت ناک ایشوز ماضی میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور علماء ان کے اپنے ٹھکانہ ہی میں ان کا قلع قمع کرتے رہے ہیں اور روئے زمین کے مختلف گوشوں سے ان کے قلم کاروں کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور ان کے اثرات و نتائج کو شہابِ ثاقب سے مارتے رہے ہیں۔ لیکن دورِ حاضر کے مجرمین نے چند مہینوں میں پوری قوت و جرأت اور اثر اندازی کے اسلوب کے ساتھ ان رذائل اور فواحش سے پُر ٹوکرا انڈیل دیا ہے۔ اور ان کے خمیٹ مکر و فریب میں سے ایک حالات کی سنگینی و ناخوش گواری اور ازدحامِ مصائب و فتن کے وقت ان رذائل کے اگلنے کا وقتِ انتخاب ہے۔

ان در آئی اور درآمد کی گئی دعوتوں کے اندر ذات، موضوع اور ہیئت ہر اعتبار سے مختلف تضادات و تناقضات پائے جاتے ہیں۔

جب آپ ان کے قلم کاروں پر نظر ڈالیں گے، تو انہیں اسلامی ناموں کے حامل پائیں گے اور جب موضوع و مضمون اور اس کی ترتیب و تیاری پر نگاہ دوڑائیں گے، تو اسے اسلامی قلعہ کو مسمار کرنے کا پھاؤڑا و تیشہ پائیں گے، جس کا اٹھانے والا مشہور مغرب زدہ ہی ہو سکتا ہے اور جس کے قلب میں فرنگیت اور خواہشات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اور یہ سب پر عیاں ہے کہ قول و عمل دل کے ایمان و نفاق کا غماز اور اس کی بین دلیل ہوتی ہے۔ اور جب آپ جملوں کی ترکیب و ترتیب پر غور

کریں گے، تو درآمد و برآمد الفاظ، ترکیب، فحش اغلاط اور اخباری جملوں اور عبارتوں کا طومار پائیں گے جو ادھر ادھر سے قص و لصق (کٹ و پیسٹ) کے طرز پر جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور یہ ان عاجز و در ماندہ لوگوں کا وطیرہ ہے جن کی صلاحیت و لیاقت اس قابل نہیں کہ ان کو قلم کار، کاتب اور رائٹر بنا سکے، جبکہ انہوں نے اس شخص کو زک پہنچائی ہے جس کا عربی زبان و ادب اور ذوقِ بیان میں کافی حصہ رہا ہے۔

اور اسی طرز پر..... جو عربی زبان و ادب سے ناواقف ہو، قرآن سے نابلد ہو اور سنت نبوی سے نا آشنا ہو، اس سے اسی قسم کی عجیب و غریب ہی شئی نکلے گی۔

البتہ ان سب کے باوجود ان پر تکبر و غرور کا وہ بھوت سوار ہے جو ان کے بعض کے اندر بعض کے پھونک مارنے سے جنم لیا ہے۔

کیا اس جیسے ناکام گروہ کے لئے یہ جائز ہے کہ اس کے لئے منبر صحافت نصب کیا جائے؟ اور وہ امت کی فکری رہنمائی کرے؟ یاد رکھیں! یقیناً اس وقت نفس کے اندر حزن و ملال اور غم و افسوس کے لئے جگہ نہ ہوگی جب امت میں ایسے مولفین و اہل قلم ہونگے اور ان جیسی تحریر ہونگی۔

واللہ! یہ نہایت شرم و عار کی بات ہے کہ اس دور میں اخلاقی رہنمائی اس جیسے مشہور گمراہ جماعت کے قلم سے ہو، جس نے جماعت المسلمین سے ٹکری ہے، ان کے طریقہ کو تیاگ دیا ہے اور حق کو ملیا میٹ کرنے اور خوہشاتِ نفس کی نصرت و تائید میں خود کو محصور و مشغول رکھا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی لعنت ہو جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کا رب ان سے ضرور حساب لے گا۔ ہم انہیں اللہ کے غیظ و غضب اور غلبہ

وسطوت اور ناراضگی کا خوف دلاتے ہیں، کوئی بھی اس پر غالب نہیں آسکتا۔ اور ہم ان پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کرتے ہیں: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ (البقرة: ۲۳۵) ”جان رکھو! اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، اس لئے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو“۔

نیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یاد دہانی کراتے ہیں: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل: ۱۱۶ تا ۱۱۷) ”کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے“۔

اور اخبار کے کالموں میں لوگوں کے کانوں پر ان شور و غوغا اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ضرور ناراض و غضبناک ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْفَرِيٍّ جَوَاطِئِ صَحَابٍ بِالسَّوَابِ جِنْفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٌ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ﴾ ”اللہ تعالیٰ ہر مغرور و متکبر اور بد زبان و بد طینت سے عداوت رکھتا ہے جو بازاروں میں شور و ہنگامہ مچاتا ہے، رات میں جیسے مردار ہے اور دن میں گدھوں جیسی آواز لگاتا پھرتا ہے، دنیوی

معاملات کا تو علامہ بنا ہوا ہے مگر امورِ آخرت سے قطعاً نابلد۔ اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

علامہ محدث شیخ احمد بن محمد شاہ کرمونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح ابن حبان کی شرح (۲۳۰/۱) میں رقمطراز ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلیغ بیان جو اپنی تصویر کشی میں فصاحت و بلاغت کی چوٹی کی حد کو بھی پار کر گیا ہے۔ لوگوں کے بلکہ حیوانوں کے اس گروہ کے سلسلہ میں۔ استغفر اللہ۔ اسے آپ اپنے گرد و پیش کے بہت سارے لوگوں میں ہر دن پا جائیں گے، جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، بلکہ اسے آپ امت اسلامیہ کے عظماء میں بھی پا جائیں گے۔ دنیوی عظماء میں، دینی عظماء میں نہیں۔ بلکہ اسے آپ ان کے اندر بھی پا جائیں گے جو خود کو ”علماء“ کے لقب سے موسوم کرتے ہیں، علم کے نام کو اس کے حقیقی معنی جو کتاب و سنت میں معروف ہے، سے دنیوی، صنعتی اور اقتصادی علوم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ پھر وہ غرور و تکبر سے پُر ہو کر اپنے اسی علم سے دین پر حکم چلانے لگتے ہیں جو درحقیقت جہلِ مض ہے۔ ان کا زعمِ باطل ہے کہ وہ اسلام کو اہل اسلام سے بہتر اور زیادہ جانتے ہیں اور دین کے معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیتے ہیں۔ اور اس آدمی کا سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں جو ان کی، یا امت اسلامیہ کی دین کی طرف صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بیان نبوی ان کے ہر مغرور اور متکبر پر بالکل چسپاں اور منطبق ہو رہا ہے۔ آپ اس حدیث پاک پر غور کریں، سمجھیں تو آپ انہیں اپنے سامنے ہر جگہ پا جائیں گے۔“

ان مجرمین کے لئے میں کوئی صحیح جگہ اس کے سوا نہیں پاتا کہ ان کو اسلامی اخلاق

وآداب کی تعلیم کے لئے درسگاہوں میں معلمین کے ڈنڈے کے نیچے اور نئی پودوں نسل کو ادب سکھانے والے مودبین کے پاس بھیج دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ شیخ احمد بن محمد شاہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ان کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اور کناہ مصر کے ان بد بختوں کے سلف کی حالت کو انہوں نے (تحقیق جامع ترمذی ۱/۱ تا ۲۲) کے مقدمہ میں دوبارہ بیان کیا: ”جو آدمی جاننے کا طلبگار ہے، اسے اس آدمی کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ جس کے دل و دماغ پر مشنریوں کا قبضہ ہے، وہ انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انہی کے کانوں سے سنتا ہے، انہی کی رہنمائی سے ہدایت لیتا ہے اور انہی کی جلائی ہوئی آگ کی روشنی سے دیکھتا ہے، جسے وہ غلطی سے نور سمجھ رکھا ہے۔ اس پر مزید طرہ یہ کہ اس کے والدین نے اس کا مسلمان نام رکھا ہے، پیدائش اور اعداد و شمار کے رجسٹر میں اس کا نام مسلمان کے خانہ میں درج ہے۔ اس لئے وہ اس اسلام کے دفاع سے کم پر راضی ہی نہیں ہوتا جو اسے صرف قومیت کے نام پر پلا دیا گیا ہے، وہ بطور دین اس کا معتقد نہیں۔ چنانچہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، صرف اس لئے تاکہ وہ اسے اپنے گرو و بابا سے سیکھے ہوئے تعلیمات کے تابع بنا دے۔ اور احادیث میں وہ اس حدیث پر راضی ہی نہیں ہوتا، جو ان کے اصول و افکار سے متضاد ہو۔ وہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں اسلام پر ان کی حجت قائم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اسلام کی کسی بھی بات کا کچھ بھی فہم نہیں رکھتا۔

یا اس آدمی کو جان جانا چاہئے جو اپنے پیشروؤں کے مثل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آرام پسند بنایا ہوا ہے۔ اس لئے اس نے ہر اس دین و عقیدہ کو گلے لگا لیا جو مغرب نے اس کے دل پر پھونک دیا۔ پھر وہ انکار کرتا ہے کہ اسلام کو بطور دین

مانے یا جانے۔ مگر صرف بعض حالات میں اور وہ بھی صرف مسلمانوں جیسا نام رکھنے، نکاح، میراث اور ذن اموات کے بعض معاملات میں بس۔

یا اس مسلمان کو جاننا چاہئے جس کی تعلیم اسلامی مدارس میں ہوئی، اس نے علوم و فنون کو بہت زیادہ سیکھا، مگر اپنے دین کو بہت تھوڑا یا کہنے صرف اس کے چھلکا کو جاننا۔ پھر فرنگی تمدن اور ان کے علوم و فنون نے اسے فریب میں ڈالا، اس نے سمجھا کہ فرنگی قوم تمدن کے عروج و کمال اور علوم و نظریات کے یقینی درجہ کو پہنچ چکی ہے۔ پھر غرور و نخوت نے اسے راہ مستقیم سے دور کر دیا اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اسلام کی زیادہ معرفت رکھتا ہے اور اسے علماء و حفاظ اور تخلصین اسلام سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ وہ دین میں دائیں بائیں ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے، اس آس میں کہ وہ علماء دین کے جمود سے نجات پا جائیں گے اور حاملین اسلام کے اوہام کے بھول بھلیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔

یا اس شخص کو جاننا چاہئے جس نے اپنے دل کے اندرونی کینہ و بغض کو باہر انڈیل دیا اور اس دین کے حق میں اپنے الحاد و عداوت کو ظاہر کر دیا۔ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا: ”كَفَرُوا بِاللّٰهِ تَقْلِيْدًا“ ”وہ محض تقلید میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، بس“۔ یا اس آدمی کو پہچاننا چاہئے جو ان لوگوں میں سے ایک ہے جن سے موجودہ دور کی مصری قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے اور جن کا لقب ہمارے برادر نابغہ عصر ادیب کامل کیلانی نے ”مجددینات“ (۱) دیا ہے۔ اور اس کو..... اور اس شخص کو.....“۔

(۱) واللہ! انہوں نے یہ عجیب و غریب لقب دیا ہے، جب ان سے کسی نے اس کی وجہ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے اس سے بھی تعجب خیز اور بلیغ جواب دیا، فرمایا: ”یہ جمع منحنث سالم ہے“۔ یہ سن کر سائل نے قسم کھا کر کہا: یقیناً آج کے دور میں عربی زبان و لغت کو اس جمع کی سخت احتیاج و ضرورت ہے۔

اور یہ منحرف مطالبات ”عورت کی آزادی“ کے نام پر کئے جاتے ہیں، جو دو نظریات کے مابین دائر ہے: ایک ”عورت کی آزادی“ اور دوسرا ”مساواتِ مرد و زن“۔ اور یہ دونوں مغربی نظریات ہیں اور عقلاً و شرعاً باطل محض ہیں۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی عہد و زمانہ نہیں رہا ہے۔ (اور مسلمان اپنے تمام ادوار میں ان سے قطعی طور پر ناواقف ہیں) اور یہ دونوں نظریات ناکام و نامراد لوگوں کی راہ پر گامزن کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے عالم اسلام کے دیگر ممالک میں بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ اور ان دونوں نظریات کے پس پردہ مومن عورتوں کے دین میں فتنہ اور ان کے درمیان فحاشی کی اشاعت کی کوشش کی کہ انہوں نے مومنین کے طریقہ کے برخلاف ان منحرف مطالبات کی آواز بلند کی۔ پھر ابتدائی نقطہ: چہرہ سے حجاب اتار پھینکنے کی صراحت کی، پھر حجاب نوچ ڈالنے کے عملی نفاذ میں سرگرم حصہ لیا اور حجاب و چادر کو نہ صرف قدموں سے روٹ ڈالا، بلکہ اسے نذر آتش کر دیا۔ اور انہی مجرمانہ حرکتوں کے بعد عصر حاضر کے بعض جمہوریات جیسے ترکی، تونس، ایران، افغانستان، البانیہ، صومالیہ اور الجزائر میں چہرہ کے حجاب پر پابندی اور حجاب شعار عورت کے مجرم گردانے جانے والے قوانین بنائے گئے، یہی نہیں بلکہ بعض ملکوں میں حجاب والی عورتوں کو قید کرنے اور مالی جرمانہ ادا کرنے کی سزا تک دی گئی۔

اس طرح قانون کے ڈنڈے سے لوگوں کو رذائل اور مغرب پرستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عالم اسلام میں مسلمان عورتوں کی اکثریت کا حال اس حد تک جاچکا ہے کہ وہ سفور و تبرج، بے حیائی و اباحت، زنا کاری اور سرکاری

لائسنس کے تحت قبہ خانہ کھولنے میں کا فر مغرب سے بھی آگے نکل گئے، اور یہاں تک کہ - ابا حیت سے بھی اوپر - طوائفوں کے لئے ایک سرکاری قانون زنا کار مرد و عورت کے بیمہ کے لئے بنایا گیا۔ پھر تعزیر و حدود کا سقوط، زنا کاری کا عام انتشار، کم سنی ہی میں عورت کے پردہ بکارت کا فقدان اس پر مستزاد ہے۔ بلکہ محرم رشتہ دار سے زنا کاری، عورت کی دوسری عورت سے شادی اور رحم عورت کو اجرت و کرایہ پر دینے تک معاملہ جا پہنچا ہے۔

اور اس کے بعد ہی منع حمل کے وسائل کا صرف اور میدان صحافت و ذرائع ابلاغ میں اس کے لئے منظم پروپیگنڈہ تیز تر کر دیا گیا، ساتھ ہی تحفظ کا اولین وسیلہ کہ منع حمل کی دوائیں شوہر والی عورت کو اور وہ بھی شوہر کی اجازت سے طبی ضرورت کے تحت، بغیر ڈاکٹر کے نسخہ کے نہ دی جائیں، ختم کر دیا گیا۔ اور عورتوں کے درمیان جرائم کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی اور ان کی صفوں میں عورتوں کی معنویت کی پامالی کے سبب خودکشی کے متعدد حالات پیدا ہو گئے۔

اسی طرح اس کے نتیجہ میں تحدید نسل (ضبط ولادت)، تعدد زوجات پر پابندی، ناجائز سرٹکوں، کچرے کے ڈبوں میں پڑے بچوں کو بیٹا بنا لینا، عورتوں سے دوستی و یاری لگانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یہ ملعون صورت بھی آگئی کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی عورت پائی جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ عورت اس کی دوست و یار ہے، تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اقرار کرے کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے، تو اس کے حق میں یہ ملعون قانون نافذ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی قانونی بیوی ہو گئی۔

یہ عجیب منطق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح و نسل مشروع کیا ہے، قانون میں تو اس کی تحدید اور اس پر پابندی لگا دی جائے اور جو عورتوں سے ناجائز یاری گانٹھنے اور سڑکوں پر گرے پڑے بچوں کو متنبی بنا لینے کو حرام قرار دیا ہے، وہ قانونی طور پر بالکل درست و جائز قرار پا جائے؟؟

کہاں مر گئے یا کھو گئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرے؟:
﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (النور: ۲) ”ان پر شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہئے“۔

اس اباحت کی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں بڑی عمر کی بے نکاح عورتوں اور معمولی اسباب کی بنا پر طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، اور جائز نومولود بچوں کی شرح کم ہو گئی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق بچہ پیدا کرنے میں ماں کے گھر سے باہر والا کام انتہائی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ اور سڑکوں، کباڑ خانوں اور کوڑا دانوں میں پھینکے گئے ناجائز نومولود بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نیز ایسے لا علاج امراض خبیثہ پھیل گئے کہ جس کے علاج سے ماہر ترین ڈاکٹر بھی عاجز ہیں۔

چنانچہ ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ضرور محاسبہ کرے گا۔ مسلمانوں کی جماعت کو مغرب کا پجاری بنا دیا، اور ان کو ان کے دین اور عزت و آبرو میں خونین زخموں کے ذریعہ خون آلود کر دیا، اور اپنی ہی ملت کی کافروں کے سامنے جگ ہنسائی کی، ان کی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر دیا اور ان کو دین سے دور کر دیا اور ان کے دین حق پر خود قابض بن بیٹھے۔ انہوں نے یہود و نصاریٰ جیسے کافروں اور ملحد

کیونستوں کی خدمت کی اور دودار، دارالاسلام و دارالکفر ایک ساتھ اس گھناؤنی اور خبیث حیوانیت پر مل گئے، حد یہ کہ ایک مسلمان کے لئے ان دوداروں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

قارئین کرام! اب ان منحرف مطالبات کا تنقیدی جائزہ پیش خدمت ہے۔ ہماری گفتگو دو امور پر مرکوز ہوگی:

پہلا امر: ان دونوں نظریات: ”عورت کی آزادی“ اور ”مساوات مرد و زن“ کی تاریخ اور عالم اسلام میں ان کی تباہ کاری کے آثار و نتائج کے سلسلہ میں ہے۔

یہ امر معلوم ہونا چاہئے کہ عورت کی آزادی کا نعرہ ان دونوں نظریات: ”عورت کی آزادی“ اور ”مساوات مرد و زن“ کے زیر سایہ مسیحی یورپ کی سرزمین فرانس میں بلند کیا گیا، جس کے خیال میں عورت گناہوں کا سرچشمہ اور برائیوں اور فسق و فجور کی جڑ و بنیاد تھی۔ عورت ایک ناپاک جنس تھی، جس سے اجتناب ضروری تھا۔ عورت نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے، گرچہ وہ ماں یا بہن جیسے پاکیزہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

اس طرح مسیحی راہبوں نے یورپ میں عورت کے سلسلہ میں اس معاندانہ موقف کی خوب اشاعت کی، جبکہ وہ خود۔ نصرانی رہبان۔ جسم و روح کی گندگی و غلاظت کے اڈہ اور اخلاقی جرائم کے مرکز تھے۔ بچوں کے اغوا کرنے والے جرائم پیشہ گروپ تھے، تاکہ کلیسا میں ان کی ذہنی تربیت کر کے حاسد و حاقد پادری بنا کر

فارغ کریں اور رہبان و بشب کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے۔ اور عملاً انہوں نے عوام و حکومت کی نظروں میں ایک خطرناک جماعت کی شکل اختیار کر لی۔

راہبوں اور کاہنوں کے اس غلو پسند اور خشک موقف و کردار سے عوام سخت دباؤ و کشیدگی اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کے ان کے ردِ عمل کے نتیجے میں مذکورہ بالا دونوں نظریات عالم وجود میں آئے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ: ”عورت کی آزادی“ اور مساواتِ مرد و زن کے نام پر، جن کا شعار ہی ہر اس چیز کا رفض و انکار تھا جس کا ادنیٰ سا علاقہ بھی کلیسا یا کلیسائی دین کے حاملین سے تھا۔ ردِ عمل میں شدت آتی گئی، یہاں تک کہ یہ نعرہ بھی لگنا شروع ہو گیا: ”مذہب و سائنس متحد نہیں ہو سکتے“ اور ”عقل و مذہب میں شدید تضاد و تناقض ہے“۔ مبالغہ آمیز نعروں میں انتہائی شدت پیدا کی گئی، تاکہ اباحت، ہر قسم کی قید و پابندی، یا فطری ضابطہ اخلاق و قانون، یا دینی اصول جو آزادی کو مس کرے، سے نکل کر بے قید کھلی حریت و آزادی حاصل کی جاسکے۔ یہاں تک کہ یہ نعرہ عورت کی آزادی کی حد کو پار کر کے دونوں صنفوں کے مابین دینی و معاشرتی فرق و تفاوت کو روند کر مرد و زن کے مساوات کے نعرہ تک جا پہنچا۔ اب ہر مرد و عورت آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، اور جو چاہے ترک کرے، نہ اس پر دین کی کوئی بالادستی ہے، نہ ادب و اخلاق کی پابندی اور نہ ہی کسی کے اختیار، حاکمیت اور قوامیت کا جو۔ یہاں تک کہ یورپ اور اس کے پیچھے پیچھے امریکہ جیسے کافر ملک اس اباحت، فحاشی و بے حیائی اور ناموسِ حیات میں عدم توازن تک جا پہنچے اور پوری دنیا اور انسانیت کے لئے ایک

اخلاقی طاعون ووبا کے سرچشمہ و مرکز بن گئے۔

کافر مغربی ملکوں کی پیداوار مذکورہ دونوں نظریات کے زیر سایہ اس الحادی مفہوم کے ساتھ عورت کی آزادی کے یہ منحرف مطالبات ہی وہ متعدی امراض ہیں جن کے جراثیم مغرب زدہ لوگوں نے عالم اسلام میں منتقل کر دیئے ہیں۔ چنانچہ اس منحوس آغاز کی تاریخ کیا ہے جس نے عالم اسلام کے بڑے حصوں کے مسلمان جماعت کو جو اپنی عورتوں کو حجاب کراتی تھی، ان کی مکمل حفاظت و نگرانی کرتی تھی اور ان کے امور ضروریہ کی ساری ذمہ داری سنبھالتی تھی اور عورتیں خود ان فرائض کی پوری پابندی کرتی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب کیا تھا، سے برگشتہ و منحرف کر کے تبرج و سفور، بے حیائی و بے حجابی اور اباحت کی اس ناگفتہ بہ حالت تک پہنچا دیا۔

ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں باحجاب و باپردہ تھیں، بے حجاب و جسم و زیور کو عریاں و کھلا رکھنے والی نہ تھیں۔ اور نبی کریم ﷺ کے درخشاں دور سے لے کر چودھویں صدی کے نصف اول تک یہی صورتحال قائم و برقرار تھی۔

اور چودھویں صدی کے نصف اول کے اخیر میں اسلامی خلافت و حکومت کے سقوط اور اس کے مختلف چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں تقسیم ہونے کی چوٹی پر سے کافر مغربی استعمار مسلمانوں کے ملکوں میں ڈر آیا اور وہ مسلمانوں کے چہروں پر شکوک و شبہات کے ہتھیار اور عوام کو اسلامی رنگ سے بیزار کر کے کفر و بد اخلاقی کے رنگ میں تبدیل کرنے کے عمل سے ضرب کاری لگانے لگا۔

اور امتِ اسلامیہ کی ضرب کاری کی اولین چنگاری جو جلائی گئی، وہ عورتوں کے چہرہ کی بے حجابی و بے نقابی ہے جو مصر کے سرزمینِ کنانہ سے شروع ہوئی جبکہ حاکمِ مصر محمد علی پاشا نے اعلیٰ تعلیم کے لئے کچھ ڈیلی گیشن فرانس بھیجے اور اس ڈیلی گیشن کا سربراہ رفاعہ رافع طہطاوی (متوفی ۱۲۹۰ھ) تھا۔ واپس مصر لوٹ آنے کے بعد اسی نے عورت کی آزادی کی دعوت کا پہلا بیج بویا۔ پھر اس کی متعدد مغربیت زدہ مفتون اور نصرانی کافروں نے پیروی کی۔ ان میں:

۱۔ صلیب کا پجاری نصرانی مرقس نبی (متوفی ۱۳۷۳ھ) تھا۔ جس نے اپنی کتاب ”المراة فی الشرق“ (مشرقی عورت) کا مرکزی ہدف حجاب کشائی اور اختلاط کا جواز بنایا۔

۲۔ احمد لطفی السید (متوفی ۱۳۸۲ھ) تھا۔ یہی پہلا شخص ہے جس نے مصر کی یونیورسٹیوں میں عورتوں کو لڑکوں کے ساتھ مخلوط اور ان کو بے نقاب و حجاب داخل کر دیا اور یہ مصر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ اس کی پرزور حمایت و تائید مغرب کا غلام ریکٹر طہ حسین (متوفی ۱۳۹۳ھ) کر رہا تھا۔

اور اس فتنہ انگیزی کا بڑا حصہ جس نے اپنے ذمہ لیا، وہ بے حجابی کا پر جوش داعی قاسم امین (متوفی ۱۳۲۶ھ) تھا، جس نے ”تحریر المراة“ (عورت کی آزادی) کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کی علماء کرام کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی اور مصر، شام اور عراق کے بعض علماء نے تو اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ تک جاری کیا۔ پھر جب کچھ حالات سازگار ہوئے، تو اس نے ”المراة الجديدة“

(جدید عورت) نام کی کتاب لکھی۔ جس کا اصل ہدف مسلمان عورت کو یورپین عورت میں تبدیل کرنا تھا۔

اور قصر شاہی سے اس فکر و نظر کی جس نے بھرپور حمایت و تائید کی وہ ملکہ نازلی عبدالرحیم صبری تھی، جس نے بعد میں اسلام سے مرتد ہو کر نصرانیت قبول کر لی تھی۔ پھر قاسم امین کے افکار و نظریات کو عملاً نافذ کرنے والا بے ججائی کا داعی سعد زغلول (متوفی ۱۳۴۶ھ) اور اس کا حقیقی بھائی احمد فتحی زغلول (متوفی ۱۳۳۲ھ) تھا۔

پھر قاہرہ میں عورت کی آزادی کے لئے ۱۳۳۷ھ کو عورتوں کی سطح پر ایک تحریک ہدیٰ شعراوی (متوفیہ ۱۳۶۱ھ) کی سرکردگی میں چلائی گئی، اور عورتوں کا پہلا اجتماع مصر کے کلیسا مرقص میں ۱۳۳۸ھ کو منعقد ہوا۔ اور ہدیٰ شعراوی ہی پہلی مصری مسلمان خاتون تھی جس نے حجاب کو اپنے چہرہ سے نوج ڈالا۔ ہم ایسی بدبختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور اس دل خراش واقعہ کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جس سے دل حزن و ملال سے چور اور حسرت و یاس سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سعد زغلول جب برطانیہ سے اسلام کو بگاڑنے والے پورے ساز و سامان و ہتھیار سے لیس مصر واپس آنے لگا تو اس کے استقبال کے لئے دو شامیانے نصب کئے گئے۔ ایک مردوں کا شامیانہ، دوسرا عورتوں کا۔ جب وہ ہوائی جہاز سے اترا، تو سیدھے باحجاب عورتوں کے شامیانے کی طرف بڑھا اور ہدیٰ شعراوی نے اپنے حجاب کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، تاکہ سعد زغلول اپنے ہاتھ سے اس کے حجاب کشائی کا افتتاح کرے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اے کاش!

اس کا ہاتھ شل ہو جاتا۔ اور ہدی کے چہرہ سے حجاب کشائی کا افتتاح کیا، سب عورتوں نے تالیاں بجائیں اور اپنا اپنا حجاب اتار پھینکا۔

دوسرا غمناک دن: سعد زغلول کی اہلیہ صفیہ بنت مصطفیٰ فہمی جس نے یورپین طریقہ کے مطابق جو اپنی بیوی کی نسبت شوہر کی طرف کرتے ہیں، شادی کے بعد اس کا نام صفیہ ہانم سعد زغلول رکھا تھا۔ یہی صفیہ قاہرہ میں قصر نیل کے سامنے عورتوں کے مظاہرہ میں بالکل وسط میں تھی۔ اس نے حجاب اتار پھینکنے کی قیادت کی اور اس کی تقلید میں تمام عورتوں نے اپنے اپنے حجاب اپنے چہروں سے نوج ڈالے، پھر اپنے قدموں سے روٹ ڈالے اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ اب اس میدان کا نام ”آزادی کا میدان“ رکھ دیا گیا ہے۔

اسی طرح کناہ مصر کے اشقیاء نے اس بد بختانہ عمل کی پیروی کی، جن میں احسان عبدالقدوس، مصطفیٰ امین، نجیب محفوظ، طہ حسین، اور نصرانیوں میں شبلی شمیم اور فرح انطون شامل ہیں۔ ہم بد بختی اور اہل بد بخت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ان کے اس مکرو چال کی نصرت و تائید صحافت کر رہی ہے، کیونکہ اس فتنہ کی اشاعت کا اولین ذریعہ یہی صحافت ہے۔ یہاں تک کہ ۱۳۱۸ھ کو ”مجلة السفور“ (مجلہ بے حجابی) کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا گیا۔ اور بے حیا و بے ضمیر قلم کاروں نے اپنے ان مقالات کے ساتھ اس کی طرف دوڑ لگا دی جو ان باتوں کے مطالبات پر مبنی تھے جو بے حجابی اور فتنہ و فساد اور بگاڑ کی مؤید و معاون اور درج ذیل وسائل فتنہ و فساد کے ساتھ فضائل و اخلاقی اقدار پر

راہزن اور حملہ آور ہیں:

خواتین کی عریاں تصویر چھاپنا، دوران گفتگو مرد و عورت کے درمیان آمنہ سامنا کرانا، نئی درآمد اصطلاح ”عورت مرد کی شریک کار ہے“ پر توجہ مرکوز کرانا، یعنی دونوں صنفوں کے درمیان مساوات کی دعوت، عورت پر مرد کی قوامیت و حاکمیت کو حماقت باور کرانا، عریاں لباسوں اور بیوٹی پارلروں، عورتوں کے مخلوط سوئمنگ پول، تفریحی کلب اور قہوہ خانوں اور جدید فیشن و ماڈل کی اشاعت کے ذریعہ، اور عزت و آبرو میں رخنہ انداز واقعات، اداکاراؤں، گلوکاراؤں اور فن و فنون جمیلہ کی ہیروئنوں کی عزت افزائی کے نشر کے ذریعہ عورتوں میں اشتعال انگیزی کرنا اور ورغلا نا۔

اس منظم حملہ کی دو امور تقویت و تائید کرتے ہیں۔ ایک اندر سے ان کی داخلی مدد و تائید۔ دوسرے مصلحین کے زبان و قلم سے ان کے خلاف محاذ آرائی کی کمزوری اور ان کی فحاشی و بے حیائی پر سکوت و خاموشی۔ اور برائیوں کی نشر و اشاعت اور دوسری طرف سے اس پر سکوت و جمود، اور مصلحین کے مقالات کو شائع نہ کرنا، یا ان کے لئے مختلف رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور ان پر انتہا پسندی و رجعت پسندی کا بہتان لگانا، اور امین و قوی الایمان مسلمانوں کے برعکس نا اہل لوگوں کو اقتدار و کرسی پر براجمان کرنا۔

اس طرح اس امت میں چہرہ سے حجاب نوج کر بے حجابی و بے حیائی کا آغاز ہوا۔ موثوق تفصیلات دیکھنا ہو تو استاذ احمد فرج کی کتاب: ﴿المؤامرة علی المرأة المسلمة﴾ (مسلمان عورت کے خلاف سازش) اور شیخ محمد بن احمد

اسماعیل کی کتاب ﴿عودۃ الحجاب﴾ (حجاب کی واپسی ج ۱) کا مطالعہ کریں۔
 ادھر پھر دوبارہ عالم اسلام میں چند سالوں کے مختصر عرصہ میں یہ خبیث دعوت
 دوڑنے لگی ہے، جیسے سوکھی پتیوں پر آگ۔ یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ بے حجابی کو لازم
 قرار دیئے جانے والے قوانین کا نفاذ کیا گیا، چنانچہ ترکی میں ملحد اتا ترک (متوفی
 ۱۳۵۶ھ) نے ۱۳۳۸ھ میں حجاب اتار پھینکنے کا قانون جاری کیا۔ اور ۱۳۴۸ھ میں
 ایک سول قانون جاری ہوا۔ جبکہ سول نو شائیل سویٹزر لینڈ کا قانون پہلے سے
 موجود تھا۔ جس میں تعدد زوجات کو حرام قرار دیا گیا اور نہایت قلیل عرصہ میں ترکی
 عورت کو سویٹزر لینڈ کی عورتوں کی بہن و پڑوسی بنا دیا گیا۔ چنانچہ ترکی عورت لباس
 ’سہرہ‘ جو عریاں کندھا و پیٹھ والا ہوتا ہے، پہنتی تھی۔ نیز وہ ’مایوہ‘ (سوئمنگ
 بنیان و چڈی) پہننے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ والعیاذ باللہ۔ اور ایران میں رضا شاہ
 پہلوی نے ۱۳۴۴ھ میں حجاب اتار رکھنے کا قانون نافذ کیا۔ اور افغانستان میں محمد
 امان نے حجاب معطل کرنے کی قرارداد پاس کی۔ اور البانیہ میں احمد زوغوانے الغاء
 حجاب کا قانون نافذ کیا۔ اور تونس میں ابورقیبہ نے ۱۳۲۱ھ میں حجاب پر پابندی
 اور تعدد زوجات کے جرم گردانے جانے کا قانون نافذ کیا اور ایک سے زائد شادی
 کرنے والے پر قید و بند کی سزا اور مالی جرمانہ عائد کیا۔ نیز اس نے شریعت کے
 خلاف بغاوت کی چند قرارداد پاس کی، ان میں سے ایک: بیس سال سے زائد عمر کی
 عورت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کی رضامندی و موافقت کے بغیر
 جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کرے۔ اور جو دوسری حلال و جائز شادی کرے،

اسے سزا دی جائے گی، مگر جو حرام طریقہ سے دس عورت سے بھی دوستی و آشنائی اور تعلقات جنسی رکھے، اسے قانوناً بری قرار دیا جائے گا۔

اور ”العربی“ پرچہ میں تونس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں سڑکوں پر نصب اعلان کے بورڈ کی تصویر تھی۔ ہر میدان میں دو بورڈ تھے، ایک میں اس خاندان و فیملی کی نمائندگی کی تصویر تھی جو حیا دار اور باحجاب لباس پہنتی ہے اور اسے کراس (x) کے نشان سے کاٹ دیا گیا تھا۔ اور دوسرے بورڈ میں بے حیا و بے حجاب فرنگی فیملی و خاندان کی نمائندگی والی تصویر تھی، اور اس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ”ان کی طرح ماڈرن بن جاؤ“۔

اس فتنہ کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی ہے اور دوسرے بھی ہیں جن میں طاہر حداد (مولود ۱۳۱۷ھ اور ہلاک ۱۳۵۳ھ) سرفہرست ہے۔ جب اس نے اپنی کتاب ”امراتنا فی الشریعة والمجتمع“ (ہماری عورت شریعت و معاشرہ کے درمیان) ۱۳۳۸ھ تا ۱۳۴۸ھ کے درمیانی عرصہ میں لکھی، جس میں اس نے عورت کی آزادی کی دعوت دی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ کتاب نصرانی فادر سلام کی تالیف ہے، جسے طاہر حداد اٹھالایا۔ اور اس کتاب کے اخیر میں بارہ سوال اٹھائے گئے تھے، جن کا جواب متعدد مفتیان کرام نے دے دیا تھا۔ اور مالکیہ کے دو مفتیوں نے اس پر اسلام سے خروج کا فتویٰ لگایا۔ جس کی وجہ سے اسے ”حقوق کالج“ سے حکومت کے حکم سے امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ پھر اسے بطور سزا نظر بند کر دیا گیا اور مذکورہ کتاب کی وجہ سے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہاں تک کہ وہ

۱۳۵۳ھ میں مرگیا اور اس کے بعض دوستوں اور گھر والوں کے سوا اس کے جنازہ میں کوئی شریک نہیں ہوا۔ وہ موسیقی و گانے، قہوہ خانے اور کمیونزم و اشتراکیت کی طرف نسبت کو اپنے لئے فخر سمجھتا تھا۔ پھر صحافت نے اس کتاب کے فتنہء عظیم اور موادِ بلاخیز کو نشر کرنے پر پوری توجہ مرکوز کر دی اور اسے برابر چھاپتی رہی، اس کی اشاعت کرتی رہی، یہاں تک کہ تونس بے جلابی و بے حیائی کی وجہ سے ایک ”مریض جسم“ بن رہ گیا۔ اور چار سو صفحات پر مشتمل اس بدنام زمانہ کتاب میں عفت و عصمت اور حجاب و پردہ کے خلاف الحادی یلغار اور مغربی جنگ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اور عراق میں اس قضیہ۔ حجاب اتار پھینکنے۔ کا سب سے بڑا ذمہ دار زہاوی اور رصافی تھا۔ ہم ان دونوں کے حال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تفصیل ”حکایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث“ (عراق کی نئی تاریخ میں سیاسی واقعات) نامی کتاب میں دیکھئے۔

اور الجزائر میں حجاب اتار پھینکنے کے المناک دن کی خبر ”التغریب فی الفکر والسیاسة والاقتصاد“ (افکار و سیاست اور اقتصادیات میں مغربیت) نامی کتاب کے (صفحات ۱۳۳ تا ۱۳۹) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اور یہ ایسا دردناک واقعہ ہے جسے سن کر حسرت و غم سے کلیجہ پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ۱۳ مئی ۱۹۵۸ء کو ایک خطیب جمعہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے خطبہ میں حجاب اتار پھینکنے کی دعوت دے۔ اور اس فتنہ میں مبتلا خطیب نے اپنے خطبہ جمعہ

میں اس کی دعوت بھی دے ڈالی۔ پھر ایک جزائرِ دوشیزہ اٹھی اور باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے حجاب اتار پھینکنے کا اعلان کیا۔ اور اس نے خود اپنا حجاب اتار کر ابتدا کی اور اس کی تقلید میں دوسری تمام عورتوں نے، جو اسی مقصد کے لئے جمع کی گئی تھیں، اپنا اپنا حجاب نوچ ڈالا۔ اور پھر مغرب کے زرخیز غلاموں نے تالیاں بجائیں۔ یہی واقعہ شہر ’وهران‘ میں بھی دہرایا گیا اور تقریباً اسی جیسا واقعہ جزائر کی دار الحکومت ’الجزائر‘ میں بھی پیش آیا۔ اور اس کے بعد صحافت و ذرائع ابلاغ نے بے حجابی کی تائید و نصرت میں اس واقعہ کی خوب تشہیر کی۔

اور مغرب اقصیٰ اور ملک شام کے چاروں ملکوں: لبنان، سوریا، اردن اور فلسطین میں تبرج و سفور، بے حیائی و بے حجابی اور اباحت کبھی بعث پارٹی کے داعیوں کے ہاتھوں پھیلی، تو کبھی قومیت کے پرستاروں کے ہاتھوں۔ سر دست جو مصادر ہمارے پاس ہیں وہ اس بے حیائی کی کیفیت و نوعیت پر نیز ان بدبختوں کے اسامی کی نشاندہی پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ اس لئے معلوم نہیں کہ وہاں کے اہل قلم اور وقائع نگاروں نے بے حجابی و بے حیائی کے اس منحوس آغاز کو خصوصاً شام کے علاقوں اور ملکوں میں کیوں نہیں لکھا اور ریکارڈ کیا، جبکہ وہاں جنسی دھماکہ، عریانیت، اباحت اور فحاشی و بے حیائی کا وہ حال ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔

اور سب سے پہلی کتاب جو ملک شام میں عورت کی آزادی کے سلسلہ میں تفصیل دیتی ہے وہ ۱۳۴۲ھ کی ہے۔ یعنی قاسم امین کی ہلاکت کے بیس سال بعد۔ اس کتاب کی مولف نظیرہ زین الدین تھی، یا اس کے نام سے طبع کی گئی اور جس کا عنوان تھا:

”السفور والحجاب“ (حجاب اور بے حجابی) اور یہاں یہ تشبیہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب پر علی عبدالرزاق نے تقریظ لکھی تھی جو ”الاسلام وأصول الحکم“ (اسلام اور اصول حکمرانی) کا مولف تھا اور جس نے مصر میں علمائیت و سیکولرزم کا ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا اور جس کا اس وقت کے علماء نے رد لکھا تھا۔

اور جہان تک ہندو پاک کی بات ہے تو مومنین کی عورتوں کی حالت پردہ و حجاب - شرم و حیا کی چادر - بہترین صورت حال میں تھی - اور انہی تاریخوں میں ۱۳۷۰ھ کے حدود میں عورت کی آزادی کی تحریک اور اس کے دونوں بازوؤں ”آزادی و مساوات“ کی دعوت شروع ہوئی - اور اس مقصد کے لئے قاسم امین کی کتاب ”تحریر المرأة“ (عورت کی آزادی) کا ترجمہ کیا گیا - پھر اس کے بعد صحافت نے مخلوط تعلیم اور چادر حیا اتار پھینکنے کا پروپیگنڈہ کیا - یہاں تک کہ اس ایشیائے کوچک کا حال یہ ہو گیا کہ الامان والحفیظ!! اور جس کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کی جاسکتی ہے - تفصیل کے لئے دیکھئے خادم حسین کی کتاب ”أثر الفكر الغربی فی انحراف المجتمع المسلم فی شبه القارة الهندیة“ (ایشیائے کوچک کے مسلم معاشرہ کے بگاڑ میں مغربی افکار کا اثر ص ۱۸۲ تا ۱۹۵) - اور اس طرح حریت و مساوات کے نام پر عورت کی آزادی کی دعوت کے زیر سایہ فتنہ کے ہر کاروں کے دباؤ کے تحت ان ملکوں میں معاملہ مغربی عورت کی انتہا اور مسلمان عورت کی ابتدا تک پہنچ گیا - چنانچہ حریت و مساوات کے نام پر:

☆ عورت کو گھر سے نکالا گیا تاکہ وہ مرد کے شانہ بشانہ زندگی کے تمام

میدانوں میں اس کا مقابلہ کرے۔

☆ عورت کو حجاب اور اس کے ضمن میں عفت و عصمت، شرم و حیا، طہارت و پاکیزگی جیسے فضائل سے عاری کر دیا گیا۔

☆ عورت کو نچلی سطح کی فحاشی و بے حیائی میں صرف مردوں کی جنسی لذت و رغبت کی تسکین و سیرابی کے لئے غرق کر دیا گیا۔

☆ عورت سے مرد کی قوامیت کا ہاتھ، تجارت چکانے کی غرض سے اس کی بلانگراں نمائش کر کے، اٹھا دیا گیا۔

☆ خلوت و اختلاط کی ممانعت کے حجاب کو اٹھا دیا گیا، تاکہ حریت و آزادی اور مساوات کے چٹان سے ٹکرا کر فضائل کو پاش پاش کر دیا جائے۔

☆ عورت کے حیاتیاتی مشن و ہدف کا خاتمہ، بحیثیت ماں، بیوی، نسل کی تربیت کنندہ، شوہر کی راحتِ جاں جیسے مقصد حیات سے دور کر کے اسے سستا و گھٹیا سامان اور ہر خیانت کا رفاستق و فاجر اور اغوا کرنے والے کی ہتھیلی کی گیند کی طرح بے قیمت و بے وقعت بنا دیا گیا۔

اور اس طرح دل خراش فتنہ و آفات و مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ جسے آپ متعدد غیرت مند مولفین کی تحریروں میں پائیں گے۔ ان میں سے ایک کتاب محمد بن عبداللہ عرفہ کی تالیف ”حقوق المرأة فی الإسلام“ (اسلام میں عورت کے حقوق) ہے۔

یہ ہیں مومنین کے طریقہ سے منحرف مطالبات اور یہ ہیں عالم اسلام میں ان

کے تباہ کن آثار و نتائج۔

دوسرا امر: منحرف مطالبات کا اعادہ تاکہ اسلام کے آخری قلعہ میں فضیلت و شرافت پر ضرب کاری کی جائے اور اسے اخلاقی فساد و بگاڑ کے اظہار کے لئے مرکز و محور بنایا جائے۔

آغاز ہی انجام کا دروازہ ہے۔ اور اولین رکاوٹ جس کی عورتوں کے رذائل کے داعیوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہے اسلامی فضیلت و شرافت اور مومنین کی عورتوں کا پردہ و حجاب۔ جب وہ اپنے چہروں کو بے نقاب کر لیں گی اور اپنے جسم و زینت کو ظاہر کر دیں گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے اجنبی مردوں سے پردہ و حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، تو مومن عورتوں کا حال فضائل سے عاری اور رذائل: تمبرج و سفور اور اباحت کی طرف لوٹ جائے گا، جیسا کہ عالم اسلام کے اکثر ملکوں میں عام ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے حالات کے اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔

دورِ حاضر کے مغرب کے زر خرید غلام و نوکرانہی خطوط پر چل رہے ہیں، وہ بڑی سرگرمی و نشاط کے ساتھ اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں، تاکہ اسلام کے آخری قلعہ میں بھی فضیلت و شرافت: حجاب پر ضرب کاری کریں، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اسلام کے اول و آخری قلعہ کے وسط میں یہ الحادی اہداف و مقاصد پہنچ چکے ہیں، جو مسلمانوں کا دار السلطنت اور مومنین کا محبوب ملک جزیرۃ العرب ہے۔ جس کے قلب و قبلہ کی جب سے وہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی رسالت پر ایمان لایا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی حفاظت کی ہے کہ

اس میں استعمار کا دخول و نفوذ ہو۔ یہاں بجز اللہ اسلام غالب ہے، شریعت نافذ ہے اور معاشرہ اسلامی ہے۔ اسے کسی کافر کی قومیت نے نجاست آلود نہیں کیا ہے۔ اور اخبار کے کالموں میں شور و غوغا کرنے والے فتنہ میں گھرے ان لوگوں نے اپنے جیسے پہلے گمراہوں کے طریقوں کی تقلید کی اور اپنے منصوبہ و طریقہ کار کو ہمارے ملک و صحافت میں منتقل کر دیا، تاکہ اس سے حجاب کا مقابلہ کریں۔ ان لوگوں نے بھی وہیں سے آغاز کیا، جہاں سے ان کے اسلاف نے کیا تھا۔ ان مطالبات سے وہ موجودہ قائم صورت حال کو جرم گردانتے ہیں اور وہ ہے اسلامی صورت حال، جس میں حجاب و پردہ، طہارت و پاکیزگی، عفت و عصمت اور دونوں صنفوں میں سے ہر صنف شریعتِ مطہرہ کے حدود کے اندر اپنے اپنے منصب و وظیفہ پر قائم و دائم ہے۔ اور سب کچھ موجود ہے، پھر وہ کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں؟۔

فضیلت کے جو اصول گزشتہ صفحات میں بیان کئے گئے ہیں، وہ ان باطل و منحرف مطالبات کا رد کرتے ہیں، جو مذاہل کی فضاؤں میں دائر ہیں، یعنی چہرہ کی بے حجابی، تبرج و سفور، اختلاط، مرد کی عورت پر قوامیت و حاکمیت کا خاتمہ، مرد کی خصوصیات کا ر میں عورت کی مزاحمت و مقابلہ آرائی جیسے تباہ کن اور ہلاکت خیز اغراض و مقاصد۔ اور مومنین کے طریقہ کے برخلاف یہ باطل و منحرف مطالبات دراصل منکرات کے مطالبہ اور معروف کے ترک، فطرت سے خروج، شریعت پر حملہ، فضائل و اقدارِ اسلامیہ کے تمام خدو خال پر جارحیت اور اسلامی قیادت جو شریعتِ مطہرہ کا نفاذ کرتی ہے، سے بغاوت کا اعلان ہے، اور ملک کو تبرج و بے حیائی، اختلاط و بے حجابی

کا گہوارہ بنا دینے کا منصوبہ و پلان ہے۔

اور یہ زبانی جنگ کی ایک قسم ہے۔ اور قلم دوزبانوں میں سے ایک ہے اور کبھی زبان سے جنگ ہاتھ سے جنگ سے بھی زیادہ کاری زخم لگانے والی ہوتی ہے۔ اور یہ روئے زمین پر فساد و بگاڑ پھیلانے کے مترادف ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (الصارم المسلمول ۲/۳۵۷) میں رقمطراز ہیں: ”زبان دین میں جو فساد و بگاڑ پیدا کرتی ہے، وہ ہاتھ کے فساد و بگاڑ سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، نیز زبان دین کی جو اصلاح کرتی ہے، وہ ہاتھ کے اصلاح سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے“۔

یہ امر بھی معلوم ہونا چاہئے کہ بے حجابی، تبرج اور عورت کو مرد بنا دینے کی دعوت صرف صحافت پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ یہاں کچھ دیگر وسائل و ذرائع بھی ہیں جو اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ اس فحاشی و بے حیائی کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ان میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، مختلف چینلس، انٹرنیٹ، فحش کتاب، ناول وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ سب مشترک طور پر مسلمانوں میں مغربی تہذیب و تمدن کی اشاعت میں مستعدی کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے دین کے احکام، اپنی عفت و عصمت اور فضیلت و شرافت سے بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس لئے ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عقاب و ناراضگی کا خوف دلاتے ہیں اور ان کو اس کے عذاب کے دن کی یاد دلاتے ہیں اور وہی ان کو وعدہ دینے والا ہے۔

اس لئے اس خطرناک و منحرف رجحان و فکر کے آگے درج ذیل اقدامات کرنا

نہایت ضروری ہیں:

۱۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبا ہاتھ (حکومت و اقتدار) دیا ہے، اس پر واجب و فرض ہے کہ وہ سخت اوامر و احکام صادر کرے، تاکہ تہرج و سفور اور بے حیائی و بے حجابی اور اختلاط کے اثرات سے فضیلت و شرافت کا تحفظ کیا جاسکے۔ اور بے ضمیر و بے حیا اہل قلم کے قلم پر ان مطالبات کے سلسلہ میں لکھنے اور امت کو ان کے شرف و فتنہ سے بچانے کی خاطر پابندی لگا دے۔ اور جو حجاب و پردہ کا مذاق و تمسخر اڑائے، اسے شرعی عدالت میں گھسیٹ کر اس پر قرار واقعی سزا نافذ کرے۔

اور تہرج شعاعورتوں کو بھی سزا دلوائی جائے، کیونکہ وہ اس شرف و فتنہ انگیزی میں برابر کی شریک ہیں اور وہ ان نوجوانوں کے مقابلہ میں زیادہ سزا کی مستحق ہیں جو ان سے چھیڑ خانی کرتے ہیں، کیونکہ وہی ان کے جذبات میں اشتعال پیدا کرنے اور اپنی طرف ان کو مائل و راغب کرنے کی باعث و محرک ہیں۔

۲۔ علماء و طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصیحت کریں، بری باتوں سے ان کو خوف دلائیں اور مومن عورتوں کو اپنی فضیلت و شرافت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں اور فضیلت پر جارحانہ حملہ کرنے والوں سے ان کی حفاظت اور برائیوں کے داعیوں اور خواہشات کے غلاموں سے ان کو آگاہ کریں اور ان پر رحم کھائیں۔

۳۔ ہر اس باپ، بیٹا اور شوہر پر واجب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کے ولی امر ہونے کا بار ڈالا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے ماتحت عورتوں کے بارے میں خوف کھائیں اور ان کے بے حجابی، تہرج، اختلاط اور اس کے اسباب و محرکات اور

برائی کے داعیوں سے حفاظت کے مناسب و کارگر اسباب و وسائل اختیار کریں اور یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کے بگاڑ کا اولین سبب مردوں کا تساہل برتنا ہی ہے۔

۴۔ مومن عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی اپنے نفس اور اپنے ماتحت بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں، فضیلت کو لازم پکڑیں، شرعی لباس اور حجاب چادر واڑھنی استعمال کرنے کا التزام کریں اور فتنہ کے داعیوں اور برائی و بد اخلاقی کے شیدائیوں کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیں۔

۵۔ ایسے اہل قلم اور مولفین کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ خالص دل سے توبہ کریں، اور اس بات سے اجتناب کریں کہ وہ اپنے اہل خاندان اور اپنی قوم و امت کے حق میں برائی کا دروازہ نہ ثابت ہوں اور اللہ کی ناراضگی، غضب اور دردناک سزا کا خوف کھائیں۔

۶۔ ہر عام مسلمان پر فرض ہے کہ وہ بے حیائی پھیلانے، اسے عام کرنے اور اس کی پلیدی و کثافت میں اضافہ کرنے سے ہوشیار رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بے حیائی اور برائیوں سے محبت بقول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (فتاویٰ ۱۵/۳۳۵ تا ۳۴۴) صرف قول و عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اشاعت، اس کے چرچا و گفتگو، دل و ضمیر، اس کی طرف میلان و رجحان اور اس پر سکوت و خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی یہ محبت ہی اس کے انتشار و پھیلاؤ کو تقویت دیتی ہے۔ اور جو مومن اس پر نکیر کرے اس کے دفاع پر جری بنا دیتی ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو فحاشی و بے حیائی کے انتشار و پھیلاؤ کی محبت سے خوف کھانا چاہئے، ارشاد بانی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ (النور: ١٩) ”جو لوگ مسلمانوں میں
بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک
عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔“

جو کچھ بیان کیا گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اور اہل علم و ایمان پر واجب و فرض صرف
تبلیغ و بیان ہی ہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکیں، اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں میں سے جس کو چاہے، فائدہ پہنچائے۔ اور دین کی خیر خواہی کی ذمہ داری
ادا ہو جائے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، قَالُوا
لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ﴾ ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے
رسول! کس کی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی، اس کے کتاب کی، اس کے
رسول کی اور مسلمانوں کے امام و حاکم اور عام مسلمانوں کی۔“ اسے امام مسلم نے
اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الحکم الجدیرة بالإذاعة ص
۴۳“ میں رقمطراز ہیں: ”امام احمد سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ عبد
الوہاب وراق فلاں فلاں بات پر سخت نکیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”لَا نَزَالُ
بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِينَا مَنْ يُنْكِرُ“ ”ہم برابر خیر و عافیت سے لطف اندوز ہوتے
رہیں گے جب تک ہم میں ایسا شخص موجود ہو جو برائیوں پر نکیر کرتا رہے۔“ اور اسی

قبیل سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے جو انہوں نے اپنے نکیر کرنے والے سے فرمایا تھا، اس آدمی نے کہا تھا: ”اتَّقِ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!“ ”اے امیر المؤمنین! آپ اللہ کا خوف کیجئے“، تو آپ نے فرمایا: ”لَا خَيْرَ فِيكُمْ إِنْ لَمْ تَقُولُوا لَنَا، وَلَا خَيْرَ فِيْنَا إِذَا لَمْ نَقْبَلْهَا مِنْكُمْ“ ”تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اگر تم ہماری نکیر نہ کرو۔ اور ہمارے اندر کوئی خیر نہیں، اگر ہم تمہاری جائز تنقید قبول نہ کریں۔“

اور عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جزا و حساب کا مالک ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .



ضمیمہ (۱)

عورت کے اپنے محارم و میل جول کی عورتوں کے سامنے لباس کی تفصیل کے سلسلہ میں علمی تحقیق و افتاء کی دائمی کونسل کی جانب سے ایک وضاحتی بیان
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ:

اسلام کے ابتدائی زمانوں میں مسلمان عورتیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان اور قرآن و سنت کے اتباع کی برکت سے طہارت و پاکیزگی، عفت و عصمت اور شرم و حیا کے بلند ترین مقام پر فائز تھیں۔ اس دور میں عورتیں ساتر لباس زیب تن کرتی تھیں اور ان کے درمیان اپنے آپس کی مجلسوں میں، یا اپنے محارم کے سامنے بے حیائی و بے حجابی اور آوارگی معروف نہیں تھی۔ اور اسی مستحکم سنت و طریقہ پر۔ واللہ الحمد۔ امت اسلامیہ کی ساری عورتوں کا ماضی قریب تک، صدی بصدی عمل جاری و ساری تھا۔ لیکن متعدد اسباب کی بنا پر اب بہت ساری عورتوں میں لباس و حیا اور اخلاق میں فساد و بگاڑ داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

علمی تحقیق و افتاء کی دائمی کونسل کے پاس عورت کے عورت کے جسم کو دیکھنے کے حدود اور اس پر کس حد تک لباس واجب و ضروری ہے، کے سلسلہ میں آئے ہوئے بہت سارے استفتاء کو دیکھتے ہوئے یہ کونسل تمام مسلمان عورتوں کے لئے یہ بیان جاری کرتی ہے:

عورت پر واجب ہے کہ وہ حیا و حشمت کے اخلاق سے خود کو متصف کرے، جسے نبی کریم ﷺ نے ایمان اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے۔ اور جس حیا و حشمت کا شرعاً و عرفاً حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت خود کو اجنبی مردوں سے حجاب میں چھپائے، شرم و حیا کرے اور ایسے اخلاق سے متصف ہو جو اسے فتنہ کے مواقع اور شکوک و شبہات اور بدظنی کی جگہوں سے دور رکھے۔

اور ظاہر قرآن اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ عورت دوسری عورت کے سامنے اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کرے جو اپنے محرم کے سامنے ظاہر کرتی ہے اور جس کا عام طور پر گھر میں اور کام کاج کی حالت میں ظاہر کرنا عورت کا عام شیوہ رہتا ہے، ارشادِ باری ہے: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ ”اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجیوں کے، یا اپنے بھانجیوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے“۔

اور چونکہ یہ قرآنی نص ہے اور اسی پر سنت دلالت کرتی ہے، اس لئے یہی وہ عمل ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کی ازواجِ مطہرات اور صحابہ کرام کی عورتوں کا اور ان کے مابعد ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہمارے دور تک کی عورتوں کا متواتر و متواتر عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکورہ اشخاص کے لئے جس

حصہ جسم کو ظاہر کرنے کی عام متواتر عادت چلی آرہی ہے، وہ عورت کا وہ حصہ جسم ہے جو عموماً گھر میں اور کام کاج کی عام حالت میں غالباً عورت کے جسم کا حصہ کھلا و ظاہر ہوتا ہے اور جس سے اس کا بچنا دقت طلب اور دشوار ہے، جیسے سر، گردن، ہاتھ اور قدم کا کھلا ہونا۔ البتہ جہانک بے حجابی اور عریانی میں توسع کی بات ہے، تو اس کے علاوہ کہ اس کے جواز پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عورت کے فتنہ اور اس سے دیگر ہم جنس عورتوں کی بیٹیوں کا فتنہ میں مبتلا و گھر جانے کا راستہ ہے۔ اور یہ فتنہ عورتوں میں موجود ہے۔ نیز اس میں دیگر عورتوں کے لئے بری تقلید کا نمونہ ہے۔ نیز اس میں کافر عورتوں اور بدکار و بے حیا طوائفوں کی لباس میں مشابہت ہے۔ اور نبی کریم ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾ ”جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے“۔ اسے امام ابوداؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے بدن پر دو پیلے رنگ کے گيروے کپڑے دیکھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا﴾ ”یہ کافروں کے لباس ہیں، اسے نہ پہنا کرو“۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مَا ثَلَاثُ مُمِیْلَاتٍ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ

رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ﴿١٠﴾ ”دو قسم کے جہنمی کو
 میں نے نہیں دیکھا: ایک وہ قوم جس کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے،
 جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنی ہوں گی،
 لیکن ننگی ہوں گی، وہ خود راغب ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف راغب کریں گی،
 ان کے سر سختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل
 ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی مسافت کی
 دوری سے بھی پائی جاتی ہے“۔ حدیث کے الفاظ میں ﴿كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ﴾
 کا مفہوم یہ ہے کہ عورت ایسا باریک کپڑا پہنے گی جو اس کے جسم کے لئے ساتر نہ ہوگا،
 اس لئے وہ کپڑا تو ضرور پہنے ہوگی، مگر حقیقت امر میں ننگی و عریاں ہوگی۔ مثلاً نہایت
 ہی باریک کپڑا پہنے گی جس کے نیچے سے اس کی چڑی جھلکے گی، یا اتنا تنگ و چست
 کپڑا پہنے گی جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز بالکل نمایاں ہوں گے، یا اتنا
 چھوٹا کپڑا پہنے گی جس سے اس کے جسم کے بعض اعضاء کھلے رہ جائیں گے۔

اس لئے مسلمان عورت پر اس طریقہ کا التزام متعین و فرض ہو گیا جو امہات
 المؤمنین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتوں اور ان کے اتباع میں اس امت کی
 خواتین کا شیوہ و عمل رہا ہے۔ نیز عورت پر حجاب و پردہ اور شرم و حیا کا حریص ہونا
 لازم و فرض ہے، کیونکہ اسی سے وہ اسباب فتنہ سے زیادہ دور رہ سکے گی، اور اس کے
 نفس کی اس خواہش و شہوت سے حفاظت ہوگی جو اسے بدکاری میں ملوث کرنے
 والے وسائل و محرکات میں اشتعال و ہیجان پیدا کرتی ہے۔

نیز ایک مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ اس لباس کے استعمال سے متنبہ
 وہوشیار رہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے اور جس میں کافر
 و بدکار اور حیا باختہ عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی میں اللہ اور اس کے
 رسول ﷺ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید اور اس کے عقاب
 و غضب سے خوف پایا جاتا ہے۔

اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے اپنے ماتحت عورتوں کے سلسلہ
 میں خوف کھائے اور انہیں ایسا عریاں، تنگ و باریک لباس پہننے کی کھلی چھوٹ نہ
 دیدے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ہمیشہ ذہن میں یہ
 تازہ رکھے کہ وہ ایک نگراں اور محافظ ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کے
 ماتحت لوگوں کے سلسلہ میں باز پرس ضرور ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے اور
 ہم سب کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دے، وہی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ .

علمی تحقیق و افتاء کی دائمی کونسل

صدر	ممبر
عبدالعزیز بن عبد اللہ بن محمد آل شیخ	عبد اللہ بن عبد الرحمن الغدیان
ممبر	ممبر
صالح بن فوزان الفوزان	بکر بن عبد اللہ ابو زید

ضمیمہ (۲)

فتویٰ نمبر (۲۱۳۵۲) بتاریخ ۹/۳/۱۴۲۱ھ

بابت عورت کی شرعی چادر کی کیفیت و نوعیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

وَبَعْدُ:

علمی تحقیق و افتاء کی دائمی کونسل اس استفتاء پر مطلع ہوئی جو عالی جناب مفتی اعظم کے پاس مستفتی / کی جانب سے آیا تھا اور جو سرکردہ علماء کونسل کے جنرل سکرٹری کے پاس نمبر (۹۳۴) کے تحت ۱۲/۲/۱۴۲۱ھ کو بھیجا گیا تھا۔ مستفتی نے جو سوال کیا، اس کی عبارت کچھ اس طرح ہے:

”آج کل ایک قسم کی چادر (عباء/ برقعہ) کا رواج چلا ہوا ہے، جو جسم پر بالکل چست سلائی جاتی ہے۔ یہ کریب نامی دو باریک و خفیف کپڑوں سے بنائی جاتی ہے اور اس کی آستین کافی کشادہ ہوتی ہے، اور اس میں نیل بوٹے اور نگینے لگے ہوتے ہیں، اور جو صرف کندھے پر سے پہنا جاتا ہے۔ شریعت میں اس نوعیت کی چادر یا عباء کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ دے کر مشکور و ماجور ہوں گے۔ ہماری تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کہ اس قسم کی چادر یا عباء پر پابندی کے لئے وزارت تجارت کو بھی لکھیں گے۔“

دائمی کونسل اس استفتاء کے مندرجات پر نظر غائر غور و خوض اور تحقیق و تدقیق

کے بعد یہ جواب نشر کرتی ہے:

عورت کے لئے شرعی عباء یا برقعہ، ”جلباب“ (لمبی چادر) کہلاتا ہے اور یہ ”جلباب“ ہی شارع کے مقصد: کمال ستر (کامل ستر پوشی) اور فتنہ و فساد سے حفاظت اور اس سے دوری کو پورا کرتی ہے۔ اور اس بنا پر عورت کے عباء (چادر و برقعہ) میں درج ذیل صفات و خصوصیات ہونے چاہئیں:

۱۔ چادر کا کپڑا اتنا دبیز اور موٹا ہو کہ اس کے نیچے سے نہ بدن کی چھڑی جھلکے اور نہ کپڑا بدن میں چپکنے والی خاصیت کا ہو۔

۲۔ چادر کشادہ اور پورے جسم کو ستر ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہو۔

۳۔ چادر آگے کی جانب سے کھلی ہو اور آستین زیادہ چوڑی نہ ہو۔

۴۔ چادر کو بیل بوٹے اور نقش و نگار سے اتنا خوشنما و جاذبِ نظر اور بھڑکیلا نہ بنا

دیا گیا ہو کہ نگاہ اس کی طرف خود بخود اٹھ جائے۔ اس لئے چادر کا نقش و نگار، بیل بوٹے اور تزئین کاری اور اس پر کسی بھی قسم کی تحریر و نشان سے خالی ہونا ضروری ہے۔

۵۔ وہ کافر عورتوں، یا مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔

۶۔ چادر واوڑھنی سر کے اوپر سے پہنی جائے (کندھے پر سے نہیں)۔

مذکورہ وضاحت سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ سوال میں مذکور عباء (چادر/ برقعہ)

عورت کی شرعی ”جلباب“ اور چادر نہیں ہے۔ اس لئے عورت کے لئے اس کا

استعمال بھی درست اور جائز نہیں، کیونکہ اس میں شرعی چادر کے اوصاف و شرائط

مفقود ہیں اور نہ ہی اس جیسی دیگر چادر جائز ہے، جس میں لازمی شرائط پورے طور

پر موجود نہ ہوں۔ نیز اس جیسی چادر کی درآمد، صنعت اور خرید و فروخت جائز ہے، نہ مسلمانوں میں اس کے چلن و رواج کی کوشش روا۔ کیونکہ ایسی صورت میں گناہ و معصیت اور عدوان و سرکشی پر تعاون کرنا شمار ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے معصیت و عدوان پر تعاون سے منع فرمایا ہے، ارشادِ باری ہے: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدہ: ۲) ”اور جو گناہ و زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے“۔

اور دائمی کونسل یہ بیان جاری کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور اجنبی مردوں سے اپنے جسم و زینت کو چادر اور اوڑھنی سے مکمل حجاب و پردہ کرنے کی وصیت کرتی ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور فرماں برداری ہے اور اسی سے فتنہ و فساد اور فتنہ انگیزی سے بچد و دوری ہوتی ہے۔ اور توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّم ،،،،
 علمی تحقیق وافتاء کی دائمی کونسل

صدر	ممبر
عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ	عبداللہ بن عبدالرحمن الغدیان
ممبر	ممبر
صالح بن فوزان الفوزان	بکر بن عبداللہ ابوزید

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	موضوعات	نمبر
۳	عرض مترجم	۱-
۷	مقدمہ از مولف طبع چہارم۔	۲-
۱۰	مقدمہ از مولف طبع اول۔	۳-
۱۰	موضوع کتاب اور سبب تالیف۔	۴-
۱۱	نظریہ وحدت ادیان کی خطرناکی۔	۵-
۱۲	جدید فیشن کا اہتمام طوائفوں کے یہاں سے در آیا ہے۔	۶-
۱۷	پہلی فصل:	۷-
۱۸	پہلا اصول: مرد و عورت کے درمیان فرق پر ایمان کا وجوب	۸-
۲۸	دوسرا اصول: حجاب عام۔	۹-
۳۰	تیسرا اصول: حجاب خاص۔ اس میں چار مسائل ہیں۔	۱۰-
۳۲	پہلا مسئلہ: عورت کے حجاب کی شرعی تعریف۔	۱۱-
۳۴	دوسرا مسئلہ: کس چیز کا حجاب ہوتا ہے؟	۱۲-
۳۸	تیسرا مسئلہ: فرضیت حجاب کے دلائل۔	۱۳-
۳۹	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک اہم اقتباس۔	۱۴-

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر
۳۹	اولاً: قرآن کریم سے دلائل: وہ پانچ ہیں:	۱۵-
۶۹	ثانیاً: سنت پاک سے دلائل، وہ گیارہ ہیں:	۱۶-
۸۱	ثالثاً: عام قیاسِ جلی۔	۱۷-
۸۲	گزشتہ مباحث کا خلاصہ۔	۱۸-
۸۳	انتباہ و تحذیر۔	۱۹-
۸۴	چہرہ و ہتھیلی کھولنے کے جواز کے دلائل کا مختصر جواب۔	۲۰-
۸۶	چوتھا مسئلہ: حجاب کے فضائل، وہ دس ہیں:	۲۱-
۹۰	چوتھا اصول: عورت کی خانہ نشینی شرعی عزیمت ہے جبکہ باہر	۲۲-
۹۸	پانچواں اصول: اختلاط شرعاً حرام ہے۔	۲۳-
۱۰۰	علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک اہم اقتباس۔	۲۴-
۱۰۴	عورت کے لئے مسجد جانے کے احکام:	۲۵-
۱۰۷	چھٹا اصول: تبرج و سفور شرعاً حرام ہیں۔	۲۶-
۱۰۹	کن باتوں سے تبرج ہوتا ہے؟	۲۷-
۱۱۲	چھوٹی بچی کے لباس میں تساہل پر تنبیہ	۲۸-
۱۱۳	ساتواں اصول: زنا کاری کی حرمت کے ساتھ اس کے.....	۲۹-

صفحہ نمبر	موضوعات	نمبر
۱۱۸	آٹھواں اصول: نکاح فضیلت کا تاج ہے۔	۳۰
۱۲۱	نکاح کی حکمت اور اس کے نیک اغراض و مقاصد۔	۳۱
۱۲۵	نکاح سے اغراض کے نقصانات۔	۳۲
۱۲۷	نواں اصول: گمراہ کن آغاز سے اولاد کی حفاظت۔	۳۳
۱۳۸	دسواں اصول: محارم اور مسلمان عورتوں پر غیرت کی فرضیت	۳۴
۱۴۵	دوسری فصل: عورت کو رذائل کی طرف بلانے والوں کی نقاب کشائی	۳۵
۱۵۰	برائیوں کے داعیوں کا عام میدان زندگی میں منصوبہ و پلان	۳۶
۱۵۳	اعلام و ذرائع ابلاغ کے میدان میں۔	۳۷
۱۵۴	تعلیم کے میدان میں:	۳۸
۱۵۴	عمل اور وظیفہ کے میدان میں:	۳۹
۱۵۵	تنقید کی اصلاح.....	۴۰
۱۶۵	حریت نسواں کی تاریخ اور عالم اسلام میں اس کے اثرات۔	۴۱
۱۷۸	اسلام کے آخری قلعہ میں فحاشی و بے حیائی کے مطالبات۔	۴۲
۱۸۰	رذائل کی طرف دعوت میں صحافت کے شرکاء کا ر.....	۴۳
۱۸۰	رذائل کے داعیوں کے مقابلہ میں اقدام واجب ہے۔	۴۴

نمبر	موضوعات	صفحہ نمبر
۴۵۔	ضمیمہ (۱) عورت کے اپنے محرم کے سامنے لباس کی نوعیت	۱۸۵
۴۶۔	ضمیمہ (۲) عورت کے شرعی لباس کے بارے میں فتویٰ	۱۹۰
۴۷۔	فہرست مضامین	۱۹۳

ختم شد

وبنعمته تتم الصالحات والحمد لله رب العالمین

مترجم: مشتاق احمد کریمی

موسس و صدر: الہلال ایجوکیشنل سوسائٹی

کٹیہار، بہار، انڈیا

ابتداء ۹/۷/۱۴۲۳ھ مطابق ۱۶/۹/۲۰۰۲ء بروز پیر

فراغت ۲۵/۷/۱۴۲۳ھ مطابق ۲/۱۰/۲۰۰۲ء بروز بدھ

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ومن

تبعہم بإحسان الی یوم الدین

☆☆☆☆

☆☆☆

☆